



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

احکام و فلسفہ

حج و عمرہ

با اردو ترجمہ زیاراتِ مکہ و مدینہ



مفہر قرآن ڈاکٹر محمد حسن رضوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

احکام و فلسفہ حج و عمرہ

با اردو ترجمہ
زیارات مکہ و مدینہ

تفسیر قرآن ڈاکٹر محمد حسن رضوی

فہرست

احکام حج و عمرہ (حج و عمرہ کا عملی طریقہ)

1.....	اقسام حج
2.....	واجباتِ عمرہ و تمعن
6.....	واجباتِ حج
11.....	حرماتِ احرام
12.....	کفارات
17.....	متفرق مسائل
22.....	عمرہ مفردة
24.....	منکھہ محترمہ کی زیارات
25.....	مدینہ منورہ کی زیارات

جح کا فلسفہ اور مقصد 88

مختلف ارکانِ حج کا فلسفہ

101.....	احرام اور میقات
103.....	نیت
105.....	محرماتِ احرام
108.....	کعبہ
112.....	طواف
113.....	حج اسود
114.....	مقامِ ابراہیم
116.....	سمعی
117.....	عرفات
122.....	مشعر
123.....	منی
124.....	رمی جرات
124.....	قربانی

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جس شخص (مرد یا عورت) میں مندرجہ ذیل شرائط پائے جاتے ہوں اس پر حج کا بجالانا واجب ہوتا ہے۔

(۱) بالغ ہو (۲) عاقل ہو (۳) آزاد ہو (۴) مستطیع ہو۔
نوٹ۔ مستطیع سے مراد ہے راستے کھلے ہوں۔ صحت کے اعتبار سے سفر کرنے اور احکامِ حج جالانے کے قابل ہو اور مالی لحاظ سے سفر اور حج کے اخراجات برداشت کرنے اور دورانِ حج اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لئے مناسب خرچہ ممیا کرنے کے قابل ہو۔

اقسامِ حج

حج کی مندرجہ ذیل تین اقسام ہیں۔

(۱) حج آزاد (۲) حج قرآن (۳) حج تمتع
حج کی پہلی دو اقسام کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو بیت اللہ سے ۹۰ کلومیٹر را اس سے کم فاصلے پر رہتے ہوں باقی تمام افراد کے لئے حج تمتع ہے۔ النداء حج تمتع کے احکام بیان کیئے جاتے ہیں۔

(۱) عمرہ تمتع (۲) حج تمتع

واجباتِ حج تمتع و عمرہ تمتع

حج تمتع سے پہلے عمرہ تمتع ادا کیا جاتا ہے اور عمرہ تمتع کے مندرجہ ذیل پانچ واجبات ہیں۔

(۱) احرام (۲) طواف (۳) نماز طواف (۴) سعی (۵) تقصیر

پہلا واجب احرام :۔ احرام میں دو آن سلی چادریں پہنی جاتی ہیں ایک کو بطور لُنگ کے اور دوسری شانوں کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ لُنگ کے اوپر احتیاط کے لئے ہیٹ باندھا جاتا ہے مگر اس بات کا خیال رہے کہ ہیٹ یا تو کپڑے کا ہو یا پھر حال جانور کے چمڑے کا ہو۔

جن مقامات سے احرام کی نیت کی جاتی ہے انہیں میقات کہتے ہیں اور یہ مختلف اطراف سے آنے والے حاج کے لئے مختلف ہیں۔

مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والوں کا میقات مسجد شجرہ ہے اور جو لوگ جده سے مکہ مکرمہ آنا چاہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ جده سے جحفہ جامیں اور وہاں سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آئیں۔ جو لوگ خصوصاً ہوائی راستے سے سفر کرنے والے حاج جو جده سے جحفہ نہ جاسکیں تو وہ اپنے اپنے ائیر پورٹ سے نذر کا احرام باندھیں۔ جس کی تفصیل متفرق مسائل کے تحت آئے گی اور بس کے ذریعے سفر کرنے والے حضرات اگر طائف کے راستے سے مکہ جانا چاہیں تو ان کے لئے قرن منازل میقات

ہے۔ جو لوگ کسی میقات سے بھی نہ گزریں تو میقات کے محاذی مقام سے احرام باندھ سکتے ہیں (محاذی کا مطلب ہے اس مقام پر اگر مکہ کی طرف منہ کر کے آدمی کھڑا ہو تو میقات دائیں یا باعیں طرف ہاتھ کی سیدھ میں ہوتا چاہئے۔ اس سے آگے بغیر احرام بڑھنا جائز نہیں۔

احرام میں دو ان سلی چادریں پہنی جاتی ہیں مگر احرام کا اطلاق (ابتداء) نیت اور تلبیہ سے ہو گا لہذا چادریں میقات سے پہلے بھی باندھی جا سکتی ہیں۔ جیسے مسجدِ شجرہ سے احرام باندھنے والے مدینہ منورہ سے احرام کا لباس پہن کر آسکتے ہیں مگر نیت اور تلبیہ مسجدِ شجرہ سے ہو گی۔ میقات پر چنج کر پہلے چھر کعات دودو کر کے نوافل کا پڑھنا چاہیے اس کے بعد یوں نیت کریں۔

”احرام باندھتا رہتا باندھتی ہوں واسطے عمرہ تمتع جنتہ الاسلام کے واجب قربۃ الی اللہ“ اس کے فوراً بعد یہ تلبیہ پڑھیں۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ

احرام کے دوران بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جن کی تفصیل محظیات احرام کے تحت آئے گی۔

دوسرے اواجب طواف : عمرہ تمتع کی نیت سے احرام باندھ کر

جب آدمی خانہ کعبہ تک پہنچ جائے تو اب دوسرا واجب طوافِ خانہ کعبہ ہے اس کی نیت یوں کرے۔ ”طواف کرتا رکرتی ہوں براۓ عمرۃ تمتّع جستہ الاسلام کا واجب قربۃ الالہ“۔

طواف سے مراد خانہ کعبہ کے گرد سات^(۱) چکر لگانے کے ہیں۔ طواف کی اہتماء حجر اسود سے ہو گی اور انتہا بھی حجر اسود پر ہو گی۔ احتیاط انیت حجر اسود سے چند قدم پہلے شروع کرے تاکہ حجر اسود سے طواف کی اہتماء نیت کے ساتھ شروع ہو۔ طواف میں باعیں شانے کو خانہ کعبہ کی طرف رکھے۔ پشت یا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا جائز نہیں اور خاص کر حطیم کی دیوار کی طرف جب پہنچے تو اپنے کندھے کو موڑتا جائے تاکہ کندھا خانہ کعبہ سے نہ نکلنے پائے۔ حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر شمار ہو گا۔ اس طرح سات^(۲) چکر مکمل کرنے کے بعد آہستہ آہستہ طواف سے باہر آئے۔ دورانِ طواف بہت ساری دعاوں کا پڑھنا مستحب ہے اور اگر دعا میں نہ پڑھ سکے تو کوئی ذکرِ خدا کرتا رہے۔ یا خدا کی حمد، تسبیح یا استغفار کرے۔

تیسرا واجب طواف :

سات^(۳) چکر مکمل کرنے کے بعد مقامِ ابراہیم کے قریب دور کعت نمازِ طواف کا پڑھنا واجب ہے۔ نیت یوں کرے ”دور کعت نمازِ طواف پڑھتا رہتی ہوں واجب قربۃ الالہ“

چوتھا واجب سعی :

صفاو مرودہ کے درمیان سات^(۴) چکر لگانے کو

سعی کتے ہیں۔ سعی کی ابتداء صفا سے اور انتہا مروہ پر ہوتی ہے۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر اور واپس مروہ سے صفاتیک دوسرا چکر شمار ہوتا ہے۔ نیت یوں ہو گی۔ ”صفا۔ مروہ کے درمیان سعی کرتا رکرتی ہوں براۓ عمرہ تمعن جنتہ الاسلام کے واجب قربۃ الی اللہ“ اور یہ نیت کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کی جائے گی۔

پانچواں واجب تفصیر: عمرہ تمعن کا آخری واجب تفصیر ہے۔
تفصیر کا مطلب ہے کچھ سریاد اڑھی کے بال کاٹنا اگرچہ تفصیر ناخن کاٹنے سے بھی ہو جاتی ہے مگر بہتر ہے بال کاٹنے۔
نیت یوں کرے گا ”تفصیر کرتا رکرتی ہوں براۓ عمرہ تمعن جنتہ الاسلام کے واجب قربۃ الی اللہ“ اور کچھ بال سریاد اڑھی کے کاٹنے۔
نوٹ: تفصیر کے بعد عمرہ تمعن مکمل ہو گیا اور وہ تمام چیزیں جواہرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں پھر حلال ہو جائیں گی۔ مگر وہ چیزیں جواہرام حرم کی وجہ سے حرام ہیں وہ اب بھی حرام رہیں گی۔

اس کے بعد جنتہ الاسلام کا دوسرا حصہ یعنی حج تمعن کرنا ہو گا جس کی ابتداء ۹ ذی الحجه کو ہو گی۔ درمیانی وقت میں حاجِ کرام مکہ مکرہ سے باہر نہیں جا سکتے۔

حج تمتّع کے واجبات :-

حج تمتّع کے کل چودہ (۱۴) واجبات ہیں۔

پہلا واجب احرام :- حج کے لئے احرام مکہ مکرمہ سے اپنے مکان سے یا مسجدِ حرام (خانہ کعبہ) سے باندھا جائے گا۔ مستحب ہے کہ ۸ ذی الحجه کو احرام باندھیں اور منی روانہ ہو جائیں۔ رات منی میں گزاریں اور ۹ ذی الحجه کو منی سے عرفات روانہ ہو جائیں اور اگر ۸ ذی الحجه کو منی نہ جانا چاہیں تو ۹ ذی الحجه کو احرام باندھ کر سیدھے عرفات چلے جائیں۔ احرام کے لئے نیت اس طرح کریں۔

”احرام باندھتا باندھتی ہوں ہر ائے حج تمتّع حجۃ الاسلام کے واجب قربۃ الی اللہ“ اور اس کے بعد فوراً تلبیہ کیں۔ اب پھر وہ تمام چیزیں حرام ہو جائیں گی، جو عمرہ تمتّع کے احرام کے وقت حرام ہو گئیں تھیں۔

دوسرा واجب وقوف عرفات :- نویں ذی الحجه کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ قیام کرنا واجب ہے اور زوال آفتاب کے وقت نیت یوں کی جائے گی۔

”زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک عرفات میں قیام کر تار کرتی ہوں ہر ائے حج تمتّع حجۃ الاسلام کے واجب قربۃ الی اللہ۔“

غروب آفتاب تک عرفات میں رہنا ضروری ہے۔ عرفات کے قیام کے

دوران امام حسین کی دعاء عرف و اور زیارت امام حسین بہترین اعمال ہیں۔

تیسرا واجب و قوفِ مدلفہ :-

عرفات سے چل کر مدلفہ یا مشعر الحرام میں پہنچنا ہے۔ نماز مغرب و عشاء مدلفہ میں ادا کی جاتی ہے اور رات مدلفہ میں گزارنی ہے مگر واجب قیام طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے۔ جس کی نیت یوں کی جائے۔

”طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک مشعر الحرام میں قیام کرتا رکرتی ہوں برائے حج تمتع ججۃ الاسلام کے واجب قربۃ الالہ“ ۔

مشعر الحرام سے تین شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لئے تقریباً ۲۰ عدد کنکریاں چن کر محفوظ کر لے۔

چوتھا واجب ۱۰ اذی الحجہ کو مدلفہ سے کوچ کر

کے منی پہنچنا :- طلوع آفتاب کے بعد مدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہو جائیں اور منی میں پہنچ کر اپنے خیمے میں سامان وغیرہ رکھ کر تین واجبات کو ۱۰ اذی الحجہ کو ادا کرنا ہے۔ جو مندرجہ ذیل ہیں۔

پانچواں واجب رمسی جمرہ عقبی :-

منی میں تین جرات ہیں۔ جس کو جمرہ اولی، جمرہ دستی اور جمرہ عقبی یعنی چھوٹا شیطان، در میانی شیطان اور بڑا شیطان کہتے ہیں۔ ۱۰ اذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کو پھر

مارنے ہیں۔ سات کنکریاں اس نیت کے ساتھ ماریں۔ ”میں جمرہ عقبی کو رمی کرتا رکرتی ہوں حج تمتع حجۃ الاسلام میں واجب قربۃ الالہ“ اور ایک ایک کر کے سات کنکریاں مارے اور یقین حاصل کر کے ساتوں کنکریاں جمرہ کو لگیں اور اگر کوئی کنکری نہ لگے تو اس کی جگہ دوسری کنکری مارے۔ ضروری ہے کہ دن ہی کو یہ کنکریاں مارنی ہیں۔ اگرچہ عورتیں رات کو بھی مار سکتی ہیں اور اس کام میں نیامت بھی ہو سکتی ہے۔

چھٹا واجب قربانی : رمی جمرہ عقبی کے بعد قربان گاہ آئے اور قربانی کرے۔ نیت یوں کرے ”قربانی کرتا رکرتی ہوں حج تمتع حجۃ الاسلام میں واجب قربۃ الالہ“ قربانی میں بھی نیامت ہو سکتی ہے۔

ساتواں واجب تقصیر یا حلق : تھوڑے سے بالوں کے کائنے کو تقصیر اور پورے سر کے منڈوانے کو حلق کہتے ہیں۔ قربانی کے بعد تقصیر یا حلق خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے سے بھی کر سکتے ہیں اور نیت یوں کرنی ہوگی۔ ”حلق یا تقصیر کرتا رکرتی ہوں حج تمتع حجۃ الاسلام میں واجب قربۃ الالہ“ حلق یا تقصیر کے بعد احرام ختم ہو جائے گا اور تمام چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں سوائے عورت اور خوشبو کے باقی سب علال ہو جائیں گی۔

آٹھواں واجب رسمیٰ جمرات :- گیارہ ذی الحجه کو طلوع

آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو ترتیب کے ساتھ یعنی اولیٰ، وسطیٰ اور عقبیٰ کو نیت کے ساتھ سات سات کنکریاں مارے نیت یوں کرے۔ ”جمرہ اولیٰ کو سات کنکریاں مارتا مرمتی ہوں حج تمتع جمۃ الاسلام میں واجب قربۃ الی اللہ“۔ اس طرح جمرہ وسطیٰ کے وقت جمرہ وسطیٰ کی نیت کرے اور آخر میں جمرہ عقبیٰ کی نیت کرے۔ ہر جمرے کو سات کنکریاں لگنی ضروری ہیں اگر کوئی کنکری نہ لگے تو اس کے بد لے میں دوبارہ کنکری مارے۔ گیارہ کو رمی کرنے کے بعد بہتر ہے کہ اعمالِ محنت کے لئے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائے۔ محنت میں نوال، دسوال، گیارہوال اور بارہوال واجب ادا کرنے کے بعد واپس منیٰ لوٹ آئے اور رات منیٰ میں گزارے۔

نوال واجب طوافِ زیارت :- منیٰ کے قیام کے دوران دس، گیارہ یا یارہ ذی الحجه کو منیٰ سے واپس محنت آ کر خانہ کعبہ کا طواف بجا لائے اس کو طوافِ زیارت کہتے ہیں۔ نیت یوں کرے۔ ”طوافِ زیارت کرتا مرمتی ہوں حج تمتع جمۃ الاسلام میں واجب قربۃ الی اللہ“ طوافِ مکمل کرنے کے بعد نمازِ طواف بجالائے۔

دسوال واجب نمازِ طوافِ زیارت :- مقامِ ابراہیم یا اس کے دائیں بائیں جس قدر نزدیک ہو سکے دور کعت نمازِ طواف ادا

کرے۔ نیت کرے۔ ”نمازِ طوافِ زیارت ادا کرتا رکرتی ہوں حجٰ تمعن یا ججۃ الاسلام میں واجب قربۃ الالہ“۔

گیارھواں واجب سعی کرنا :-

طواف اور نمازِ طواف زیارت کے بعد صفا مرودہ کے درمیان سعی یعنی حسب سابق سات چکر لگائے جن کی ابتداء صفا اور انتہا مرودہ پر ہوگی۔ نیت یوں کرے۔ ”صفا اور مرودہ کے درمیان سعی کرتا رکرتی ہوں حجٰ تمعن ججۃ الاسلام میں واجب قربۃ الالہ“۔ سعی مکمل کرنے کے بعد خوشبو کا استعمال بھی حلال ہو جائے گا۔

بارھواں واجب طواف النساء :-

سعی کے بعد ہر مرد اور عورت اور ہرچہ اور بھی چاہے بالغ ہوں یا نابالغ ہوں جس نے بھی حجٰ تمعن کا احرام باندھا اس کے لئے طواف النساء بجا لانا واجب ہے۔ نیت یوں کی جائے۔ ”طواف النساء بجا لاتا رلاتی ہوں حجٰ تمعن ججۃ الاسلام میں واجب قربۃ الالہ“۔ سابق طریقے کے مطابق خانہ کعبہ کے گرد سات چکر مکمل کریں اور طواف کے بعد نمازِ طواف مقام ابراہیم پر ادا کریں۔

تیرھواں واجب نمازِ طواف النساء :-

طواف النساء کے بعد دور کعت نمازِ طواف النساء کا ادا کرنا واجب ہے۔ نیت یوں کرے۔ ”دور کعت نمازِ طواف النساء پڑھتا رپڑھتی ہوں حجٰ تمعن ججۃ الاسلام میں

واجب قربة الی اللہ۔ اس کے بعد مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد حلال ہو جائے گا۔

مکہ مکرہ کے یہ اعمال یعنی طوافِ زیارت، سعی اور طواف النساء گیارہ ذی الحجہ کو منی سے آ کر ادا کیئے ہیں تو پھر واپس منی چلا جائے۔ آدھی رات سے پہلے پہلے منی واپس پہنچنا ضروری ہے تاکہ رات منی میں گزارے۔

چودھوال واجب : بارہ ذی الحجہ کو ترتیب کے ساتھ تینوں جمروں یعنی جمرة اولیٰ، وسطیٰ اور عقبیٰ کو نیت کے ساتھ سات سات کنکریاں مارے اور نیت دیے کرے جیسے آٹھویں واجب میں بتائی جا چکی ہے۔ بارہ ذی الحجہ کو تینوں جمروں کو رمی کرنے کے بعد زوال تک منی میں رُکار ہے اور زوال کے بعد منی سے نکل جائے اگر غروبِ آفتاب تک منی سے نہ نکل سکے تو تیرہ ہویں کی شب پھر منی میں قیام کرے اور تیرہ ذی الحجہ کو پھر تینوں جمرات کو رمی کرنے (مارنے) کے بعد منی سے نکل جائے۔

ان چودہ واجبات کو جالانے سے حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی منی سے سیدھا وطن واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔

طواف الوداع : یہ ایک منتخب عمل ہے یعنی وطن روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا الوداعی طواف اور نماز طواف جالائے۔

محرماتِ احرام : احرام چاہے عمرے کا ہو یا حج کا، حالتِ احرام

میں مندرجہ ذیل اشیاء حرام ہو جاتی ہیں۔

(۱) خشکی کے جانور کا شکار (۲) عورت سے مباشرت (۳) عورت سے بوس و کنار (۴) عورت کو شوت میں مس کرنا (۵) عورت پر شوت سے نظر کرنا (۶) استمنا (۷) عقد نکاح (۸) خوشبو لگانا (۹) مردوں کا کے لئے سلا ہوا بس پہننا (۱۰) آئینہ دیکھنا (۱۱) سر مہ لگانا (۱۲) مردوں کا جراب پہننا (۱۳) جھوٹ یا سب گالی دینا (۱۴) محاولہ (جھگڑا) کرنا (۱۵) جو ویس مارنا (۱۶) زینت کرنا (۱۷) تیل لگانا (۱۸) بدن سے بال جدا کرنا (۱۹) مردوں کا سر ڈھانپنا (۲۰) مردیا عورت کا پانی میں غوطہ لگانا (۲۱) عورتوں کا چہرے کو چھپانا (۲۲) مردوں کا دن کے وقت متھر ک سائے کے نیچے سفر کرنا (۲۳) بدن سے خون نکالنا (۲۴) ناخن اتارنا (۲۵) دانت نکلوانا (۲۶) اسلحہ ساتھ رکھنا۔

کفارات :- مندرجہ بالا محکمات پر کفارات کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) شکار پر کفارہ :- بڑے جانور کے شکار پر ایک اُنٹ اگر ممکن نہ ہو تو سانچھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انعامہ روزے رکھنا۔ درمیانی جانور کے شکار پر ایک گائے یا ۳۰ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انوروزے۔ چھوٹے جانور کے شکار پر ایک بچری یا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا تین روزے رکھنا۔

نوت :- پالتو جانور یا ایڈار سا جانور اس حکم سے مستثنی ہیں یعنی ان پر کوئی کفارہ نہ ہو گا۔

(۲) مباشرت :- (ا) اگر مباشرت عمرہ تمعن کے احرام میں سعی کے بعد کرے تو اس کا کفارہ ایک گائے ہے اور عمرہ باطل نہیں ہو گا۔ اور اگر سعی سے پسلے کرے تو کفارہ گائے بھی دے گا اور اس عمرہ اور حج کو تمام کرنے کے علاوہ اگلے سال پھر عمرہ اور حج بھی بجالائے گا۔

(ب) اگر مباشرت حج کے احرام میں نذر لفہ کے وقوف سے پسلے کرے تو کفارہ بھی دے گا اور آئندہ سال حج کا اعادہ بھی کرے گا چاہے حج وااجب ہو یا منتخب اور یہی حکم عورت کے لئے بھی ہے اگر اس امر میں اس کی رضا شامل ہو اور اگر عورت مجبور ہو تو اس کا کفارہ بھی مرد پر ہو گا اور اگر مباشرت و قوف کے بعد اور طواف النساء سے پسلے ہو تو صرف کفارہ دے گا حج اور عمرہ کا اعادہ نہیں کرے گا۔

(ج) اگر مباشرت عمرہ مفرده کے احرام میں سعی کے بعد کرے تو کفارہ دے گا مگر عمرے کا اعادہ نہیں کرے گا اور اگر سعی سے پسلے مباشرت کرے تو کفارہ کے علاوہ اگلے ماہ تک متہ میں رہے پھر کسی میقات تک جا کر عمرہ مفرده کا احرام باندھے اور عمرہ مفرده بجالائے۔

(۳) شہوت میں عورت کا وسہ لینا :- اس عمل سے منی خارج ہو

تو اس کا کفارہ ایک گو سند ہے۔

(۴) شہوت سے عورت کو مس کرنا :- منی خارج ہو یا نہ ہو کفارہ ایک گو سند ہے۔

(۵) شہوت سے عورت کی طرف نظر کرنا :- اگر منی خارج ہو تو کفارہ ایک اونٹ اور اگر اونٹ ممکن نہ ہو سکے تو پھر ایک گو سند اور اگر منی خارج نہ ہو تو کفارہ نہیں مگر اس فعل سے اجتناب کرے۔

(۶) استمنا کا کفارہ :- مثل مبادرت کے کفارے کے ہے جس کا ذکر مسئلہ نمبر ۲ میں ہو چکا ہے۔

(۷) عقد نکاح کا کفارہ :- حالتِ احرام میں اپنے لئے یا کسی دوسرے کے لئے ترویج کرنا حرام ہے اور یہ نکاح باطل ہو گا اور اس کا کفارہ ایک اونٹ ہے۔

(۸) خوشبو :- اگر حالتِ احرام میں کوئی خوشبو دار چیز کھائے یا پہنے تو اس کا کفارہ ایک گو سند ہے۔ اس سے میوے، پھل اور سبزیاں مستثنی ہیں۔ عام خوشبو کے استعمال پر کفارہ نہیں مگر اجتناب کرے۔ اگر کمیں سے بدبو آرہی ہو اور ناک بند نہیں کر سکتا تو وہاں سے جلدی گزر جائے۔

(۹) مردوں کا سلا ہوا لباس پہننا :- اس کا کفارہ ایک گو سند ہے اگر یہ لباس کئی بار پہنے یا تبدیل کرے تو ہر بار ایک کفارہ دینا ہو گا۔

(۱۰) مہ لگانا :۔ اگر مہ زینت کے لئے لگائے تو کفارہ ایک گو سند ہے اور اگر علاج کے لئے لگائے تو کوئی کفارہ نہیں۔

(۱۱) آئینہ دیکھنا :۔ اس کا کفارہ ایک بار تلبیہ کہنا مستحب ہے اور اگر ضرورت کے تحت دیکھے، جیسے ڈرائیور کا پیچھے والی گاڑی کو دیکھنا، تو اس پر کفارہ نہیں۔

(۱۲) جراب پہننا یا پاؤں کی پشت کو ڈھانپنا :۔ مردوں کے لئے کفارہ ایک گو سند ہے۔ عورتوں کے لئے جراب پہننا یا پشت پاؤں کو ڈھانپنا جائز ہے۔

(۱۳) جھوٹ بولنا یا سب کرنا (گالیاں دینا) :۔ اس کا کفارہ استغفار ہے۔

(۱۴) مجاولہ کرنا :۔ یعنی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے تین بار قسم کھانا اگرچی قسم ہے تو کفارہ ایک گو سند اور اگر جھوٹی ہے تو پہلی قسم پر کفارہ ایک گو سند، دوسری قسم پر دو گو سند اور تیسرا قسم پر کفارہ ایک گائے ہے۔

(۱۵) جوؤں کو مارنا :۔ جوؤں کو مارے یا پکڑ کر چھینکے۔ کفارہ ایک مٹھی بھر طعام دے۔

(۱۶) زینت کرنا :۔ حرام کے دوران زینت سے اجتناب کرے مگر اس پر کوئی کفارہ نہیں۔

(۱۷) تیل لگانا :- تیل لگانے پر کفارہ ایک گو سفند ہے لیکن علاج کے لئے تیل لگائے تو اس پر کوئی کفارہ نہ ہو گا۔

(۱۸) بدن سے بال زائل کرنا :- بدن کے کسی حصے سے بال کٹانے یا منڈوانے کا کفارہ ایک گو سفند ہے۔ سر یاد اڑھی پر بے مقصد ہاتھ پھیرنے سے اگر کچھ بال گر جائیں تو کفارہ مٹھی بھر طعام دینا ہے۔ وضو کرتے ہوئے اگر بال گر جائیں تو کوئی کفارہ نہیں۔

(۱۹) مردوں کا سر ڈھانپنا :- اس کا کفارہ ایک گو سفند ہے۔

(۲۰) مردوں اور عورتوں کا پانی میں غوطہ لگانا :- اس کا کفارہ بھی ایک گو سفند ہے۔

(۲۱) عورتوں کا چہرہ چھپانا :- اس کا کفارہ بھی ایک گو سفند ہے۔

(۲۲) مردوں کا متحرک سائے میں سفر کرنا :- مردوں کا متحرک سائے مثلاً بس یا چماز وغیرہ میں سفر کرنے کا کفارہ ایک گو سفند ہے مگر آقاۓ سیستانی کے فتویٰ کے مطابق مرد رات کو متحرک سائے کے نیچے سفر کر سکتے ہیں بشرط طبادش نہ ہو۔

(۲۳) بدن سے خون نکالنا :- اس کا کفارہ ایک گو سفند ہے لیکن مجبوری کے تحت ہو تو کفارہ نہیں اس طرح مساوک کرتے ہوئے اگر دانتوں سے خون نکل آئے تو اس کا بھی کفارہ نہیں۔

(۲۴) ناخن اتارنا :- ہر ناخن اتارنے پر کفارہ ایک طعام ہے لیکن اگر ناخن اتارنے کی تعداد دس تک پنج جائے تو کفارہ ایک گوسفند ہے۔ اگر کوئی ناخن ٹوٹ جائے اور باتی حصہ تکلیف دے رہا ہو تو اس کے کامنے پر کوئی کفارہ نہیں۔

(۲۵) دانت نکلوانا :- اس کا کفارہ ایک گوسفند ہے۔

(۲۶) اسلحہ ساتھ رکھنا :- اس کا کفارہ ایک گوسفند ہے۔

نوٹ :- حدودِ حرم میں چاہے احرام میں ہو یا نہ ہو، گھاس کاٹنا، درخت کاٹنا، شکار کرنا جائز نہیں ان چیزوں کا کفارہ ان کی قیمت ہے۔ اس طرح حدودِ حرم میں کسی گری ہوئی چیز کا اٹھانا بھی جائز نہیں۔ اگر اٹھایا گا اور وہ چیز ایک درہم کے کم قیمت کی ہے تو اعلان کی ضرورت نہیں۔ مالک کی طرف سے صدقہ دے دے۔ اور اگر وہ چیز ایک درہم سے زیادہ قیمت کی ہے تو ضروری ہے کہ ایک سال تک اعلان کرے اور اگر مالک نہ ملے تو اس کی طرف سے صدقہ دے دے۔

متفرق مسائل :-

مسئلہ نمبر ۱: عورت کے لئے محروم کی شرط نہیں۔ جس عورت پر حج واجب چکا ہو اس کے لئے شوہر کی اجازت بھی ضروری نہیں۔

مسئلہ نمبر ۲: حج بدل کے لئے نائب ہنانے میں ممائت ضروری نہیں

یعنی مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد کو نائب نایا جا سکتا ہے۔
مسئلہ نمبر ۳ :- اگر کسی پر اپنا حج واجب ہو تو اسے نائب مقرر نہیں کیا جاسکتا۔

مسئلہ نمبر ۴ :- جس رقم میں خمس واجب الادا ہو اس سے حج کے مصارف مثلاً احرام وغیرہ خریدنا جائز نہیں۔ ایسے احرام کے ساتھ طواف اور حج باطل ہو گا۔

مسئلہ نمبر ۵ :- مقام ابراہیم پر عورتوں کے لئے پہلو کھڑے ہو کر یا اُنکے پچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے۔

مسئلہ نمبر ۶ :- ایام تشریق ۱۱، ۱۲ اور ۱۳ اذی الحجہ کو حاجی صاحبان کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں۔

مسئلہ نمبر ۷ :- طوافِ خانہ کعبہ کے لئے ضروری ہے کہ آدمی ختنہ شدہ ہو یہاں تک کہ اگر نابالغ چڑھی اگر بغیر ختنہ شدہ طواف کرے تو وہ بعد میں شادی نہیں کر سکتا جب تک ختنہ کر کے دوبارہ طواف نہ کرے پھر سعی کرے۔ تفصیر کرے اور ایک طواف النساء اور نماز طواف پڑھئے تب شادی کرنا جائز ہو گی۔ ان کاموں کے لئے چاہے تو نائب مقرر کر سکتا ہے۔

مسئلہ نمبر ۸ :- واجب طواف کے لئے ضروری ہے کہ طواف خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان جالائے، مقام ابراہیم سے باہر نہ نکلے۔ (مگر مجبور ہو تو باہر سے بھی طواف کر سکتا ہے)

مسئلہ نمبر ۹:- اگر کسی آدمی پر اپنا حج واجب ہو چکا ہے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ اپنے حج میں تاخیر کرے اور پہلے والدین یا بیوی کو حج کرائے۔ جس پر حج واجب ہوا سے پہلے حج ادا کرنا چاہیے۔

مسئلہ نمبر ۱۰:- میت کے بدلتے حج کے لئے اسی کے شرے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میقات کے قریب سے بھی کوئی چلا جائے تو فریضہ ادا ہو جائیگا۔

مسئلہ نمبر ۱۱:- نذر کا احرام باندھنے کا یہ مطلب ہے اگر انسان یہ نذر کرے کہ میں خدا کے لئے اپنے اپر لازم قرار دیتا ہوں کہ عمر و تمعن کا احرام اپنے گھر یا ایک پورٹ وغیرہ سے باندھوں گا تو اس نذر کے بعد انسان اس مقام سے جس کی نذر کی ہے احرام باندھ سکتا ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۲:- اگر نابالغ پچھے کو عمرہ یا حج کرانا ہے تو اسے لباس احرام پہنا کر اس کی طرف سے نیت کرے اور اگر ممکن ہو تو پچھے سے بھی نیت کرائے۔

مسئلہ نمبر ۱۳:- اگر طواف کے دوران وضو ثبوت جائے تو طواف روک کر دوبارہ وضو کرے۔ اب اگر پہلے چار چکر مکمل کر چکا ہے تو پانچویں چکر سے طواف شروع کرے اور اگر چار چکر مکمل نہیں ہوئے تو دوبارہ وضو کر کے پھر نئے سرے سے طواف شروع کرے۔

مسئلہ نمبر ۱۴:- اگر دوران طواف عورت کو حیض آجائے تو طواف کو وہیں روک دے اور مسجد الحرام سے باہر نکل آئے۔ البتہ سعی اور تفہیم کرے کیونکہ اس کے لئے طہارت کی شرط نہیں اور سعی والا علاقہ مسجد الحرام میں

شمار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ۹ ذی الحجه کو احرامِ حج باندھ کر عرفات چلی جائے۔ عرفات، مدلسفہ اور منی کے احکام سے فارغ ہو کر اگر اس وقت تک حیض سے پاک ہو چکی ہے تو پہلے عمرہ کا طواف جو حیض کی وجہ سے نامکمل رہ گیا تھا اسے مکمل کرے اور پھر حج کا طواف زیارت جالائے۔

مسئلہ نمبر ۱۵:- عورت اگر عمرہ تمعن مکمل کر چکی ہے اب اسے اندیشہ ہے کہ ۹ یا ۱۰ ذی الحجه کو واجباتِ حج شروع ہوں گے تو اسے حیض آجائے گا۔ اور قافلہ اتنا انتظار نہیں کرے گا کہ وہ پاک ہو کر طوافِ زیارت کر سکے تو اسے چاہیے کہ عرفات جانے سے پہلے طوافِ زیارت اور نمازِ طواف اور طواف النساء اور نمازِ طواف پہلے ادا کر دے لیکن عرفات و مدلسفہ کے احکام جمالانے کے بعد اور منی کے قیام کے دوران اسے حیض نہیں آیا جس کا اندیشہ تھا تو طواف اور اس کی نماز جو پہلے ادا کر چکی ہے اسے دوبارہ ادا کرے۔

مسئلہ نمبر ۱۶:- جس عورت کو عرفات، مدلسفہ یا منی کے واجبات کی ادائیگی کے دوران اچانک حیض آجائے اور عرفات روانہ ہونے سے پہلے وہ احتیاط طواف اور نمازِ طواف ادا نہیں کر چکی اور قافلہ اس کا انتظار بھی نہیں۔ کر سکتا تو اسے چاہیے کہ طواف اور نمازِ طواف کے لئے ہب مقرر کرے اور باقی اعمال مثلاً سعی وغیرہ خود جالائے۔

مسئلہ نمبر ۱۷:- اگر کوئی شخص سکر درمی یا بیماری کی وجہ سے طواف کرنے

کے قابل نہیں تو وہ کسی کے کاندھے یا چارپائی پر طواف کر سکتا ہے مگر طواف کے لئے نائب مقرر نہیں کر سکتا۔

مسئلہ نمبر ۱۸:- نمازِ طواف کے لئے اگر خود صحیح طور پر جالانے کا اطمینان نہیں تو نائب مقرر کر سکتا ہے لیکن ساتھ خود بھی جالائے۔

مسئلہ نمبر ۱۹:- سعی میں نہ طہارت کی شرط ہے اور نہ پیدل چلنے کی اور سعی کے دوران کچھ دیر کے لئے صفائی مرودہ پر بیٹھ سکتا ہے۔

مسئلہ نمبر ۲۰:- سعی کے لئے بھی پیدل یا سواری جائز ہے۔ جب تک ممکن ہو نائب نہیں بنا سکتا ہے۔

مسئلہ نمبر ۲۱:- اگر قربانی کے جانور کے لئے اتفاق سے پیسے کم پڑ جائیں یا جانور دستیاب نہ ہو تو قربانی کے بدالے ۷، اور ۸، اور ۹ ذی الحجه کو مسلسل روزے رکھے اور یہ روز مسلسل وطن واپس آکر رکھے۔

مسئلہ نمبر ۲۲:- مجبوری کی حالت میں اعمالِ محتہ یعنی طواف، سعی وغیرہ ۲۹ ذی الحجه تک انجام دے سکتا ہے۔

مسئلہ نمبر ۲۳:- اگر عورت احرامِ عمرہ تمتع سے پہلے حالتِ حیض میں ہے اور یہ سلسلہ اعمال کے خاتمے تک جاری رہے گا اور قافلہ انتظار نہ کرے گا تو اسے چاہیے کہ اپنے حج تمتع کے ارادے کو حج افراد میں بدل دے۔ احرام باندھ کر عرفات چلی جائے۔ عرفات، مددلفہ اور منی سے فارغ ہو کر بعد میں سال کے دوران ایک عمرہ بجا لائے۔ اس حج افراد میں قربانی کی

ضرورت نہیں۔

مسئلہ نمبر ۲۳: حالتِ احرام میں انسان خود اپنی تقدیر کر سکتا ہے اور اپنی تقدیر کے بغیر دوسروں کی تقدیر نہیں کر سکتا۔

مسئلہ نمبر ۲۵: ذی الحجہ کی ۱۱۔ ۱۲ اور بعض حالات میں ۱۳ کی شب کا کم از کم آدھا حصہ، چاہے آدھی رات سے پہلے یا بعد، منی میں گزارنا واجب ہے۔

عمرہ مفردہ: اعمالِ حج کے بعد اور سال میں کسی وقت بھی عمرہ مفردہ بجا لاسکتا ہے۔ مکہ کے باہر سے آنے والے حضراتِ احرام میقات سے باندھیں گے مگر جو لوگ پہلے سے مکہ مکرتمہ میں موجود ہوں، وہ عمرہ مفردہ کا احرام حدودِ حرم سے باہر جا کر باندھیں۔

عمرہ مفردہ کے سات واجب ہیں۔


۱۔ احرام	۲۔ طواف	۳۔ نمازِ طواف	۴۔ سعی
۵۔ تقدیرِ حلق	۶۔ طواف النساء	۷۔ نمازِ طواف النساء	

حدودِ حرم: حرم شریف کی شمالی حدود مدینہ منورہ کی جانب سے مسجد عمرہ ہے جس کا فاصلہ حرم سے ۶ کلو میٹر ہے۔ جنوہی حد عرفات کی طرف مسجد نمرہ ہے جس کا فاصلہ ۱۳ کلو میٹر ہے۔ مشرق کی جانب جعرانہ ہے جس کا فاصلہ ۱۲ کلو میٹر ہے۔ اور مغربی حد حدیبیہ ہے جس کا فاصلہ بھی ۱۲ کلو میٹر ہے۔ اس حدود کے اندر بیکار کرنے، کھانس یا اور خست کا نٹا احرام

ہے۔ ان حدود کے اندر کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ ان حدود کے اندر گری ہوئی چیز کے اٹھانے کی اجازت نہیں اگر اٹھا لے تو ضروری ہے کہ سال برابر اعلان کرتا رہے اور اگر مالک نہ ملے تو پھر سال بعد اس کی طرف سے وہ چیز بطور صدقہ دے دے۔

مطاف : خانہ کعبہ کے چار طرف ۲۶-۱۲ ہاتھ کا علاقہ مطاف کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ واجبی طواف کے لئے مخصوص ہے۔

ارکانِ کعبہ :-



طواف کی ابتداء اور انتها حجر اسود پر ہو گی۔
واجبی طواف خانہ کعبہ اور مقامِ ابراہیم کے اندر ہونا چاہیے۔
طواف کا حطیم کی دیوار کے باہر سے ہونا لازمی ہے۔

خانہ کعبہ اور حطیم کی دیوار کے درمیانی حصے کو حجر اسماعیل کہتے ہیں۔
یہاں نوافل پڑھنا مستحب ہے۔

رکنِ شامی اور رکنِ غربی کے درمیان میزابِ رحمت یعنی خانہ کعبہ کا
پر نالہ ہے۔

رکنِ یمانی سے دیوارِ کعبہ ولادتِ امیر المؤمنین کے لئے شک ہوتی
تھی۔

زیاراتِ مکہ مکرّمه :-

مقامات ہیں جن کی زیارت مستحب ہے۔

۱۔ مولد النبی (مقامِ ولادتِ رسول)

۲۔ مسجدِ جن :- یہاں سورۃِ جن نازل ہوتی۔

۳۔ مسجدِ بلال :- کوہ ابو قیس کی چوٹی پر۔

۴۔ جنتِ المعلی :- اس میں حضرت رسولِ خدا کے

آباو اجداد اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی

قبریں ہے۔

۵۔ غارِ حرا :- منزلِ وحی

۶۔ غارِ ثور :- ہجرت کرتے ہوئے آپ نے اس غار

میں قیام کیا۔

مدینہ منورہ : حج سے پہلے یا حج کے بعد جاج کے لئے ضروری ہے کہ مدینہ منورہ کے زیارات سے مشرف ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ "جس نے حج کیا مگر میری قبر کی زیارت نہ کی اُس نے مجھ پر جھاکی اور مزید آپ نے فرمایا کہ میری قبر کی زیارت ایسی ہے جیسے میری حیات میں میری زیارت کی"۔ (الحدیث)

۱۔ مدینہ منورہ حرمِ رسول خدا ہے۔ اس حرم کی حدود یہ ہیں۔ شمال میں پہاڑِ عامر اور مغرب میں پہاڑِ عیر ہے۔ ایک پورٹ حدودِ حرم سے باہر ہے۔ اس حرم میں بھی کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس حرم میں داخلے کے لئے احرام کی ضرورت نہیں۔

۲۔ مسجد نبوی : آج کل یہ ایک وسیع و عریض عمارت پر مشتمل ہے۔ جس میں ایک اندازے کے مطابق کئی لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اصلی مسجد جو قدیمی ہے مسجد کا وہ حصہ ہے جو سفید سنگِ مرمر کے ستونوں پر مشتمل ہے۔ اس حصے کو ریاض الجت بھی کہتے ہیں۔ اس کے چھ ستون ہیں جو سب سفید سنگِ مرمر کے ہیں۔ ان کے قریب نماز پڑھنا بے حد ثواب رکھتا ہے۔ ان ستونوں کی تفصیل یوں ہے کہ پہلا ستون وہ ہے جس کی ایک لگا کر حضور اکرم خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا ستون کے قریب حضور اکرم کا خادم کھڑا رہتا تھا۔ تیسرا ستون کے

قریب باہر سے آنے والے وفواد اور افراد حضور اکرمؐ سے ملاقات کرتے تھے۔ چوتھے ستون کو ستون توبہ کہتے ہیں۔ پانچویں ستون کے قریب حضور ایامِ اعتکاف میں آرام فرماتے تھے۔ چھٹے ستون کے قریب حضرت جبرائیل تشریف لایا کرتے تھے۔

مرقدِ مبارک رسولِ خدا:- آپؐ کی قبر مبارک مسجد سے ملحق آپؐ کے جھرے میں ہے۔ آپؐ کی قبر مبارک پر چھت سے نیچے تک بزرگ کاغلاف لٹکا رہتا ہے۔ زائیرین جھرے کے سامنے سے آپؐ پر درود شریف پڑھتے ہوئے گزرتے رہتے ہیں۔
مسجدِ نبویؐ میں داخل ہونے کے چاروں طرف بے شمار دروازے ہیں مگر بابِ جبرائیل جو جھرہ مبارک کے سامنے ہے مسجد میں داخلے کے لئے سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

مرقدِ جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء:- آپؐ کی مرقد کے بارے میں تین روایات ہیں۔

- ۱۔ آپؐ کی مرقد جھرہ رسولِ خدا میں رسولِ خدا کی قبر مبارک سے شمال کی جانب ہے۔
- ۲۔ آپؐ کی مرقد جھرہ یعنی قبر رسولِ خدا اور منبر کے درمیان ہے۔
- ۳۔ آپؐ کی مرقد جنتِ البقیع میں ہے۔

زیارتِ جنتِ البقع :-

- (۱) زیارت قبر سیدہ (۲) زیارت قبور آئمہ (امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق) (۳) قبر حضرت عباس ابن عبدالمطلب
 (۴) قبر حضرت فاطمہ بنت اسد (والدہ جناب علی مرتضیٰ)
 (۵) قبور حضرت عقیل، حضرت عبد اللہ ابن حضرت جعفر طیار (۶) قبور شدائے احمد (۷) قبر حضرت اسماعیل بن حضرت جعفر صادق (۸) قبور حضرت حمیم، حضرت صفیہ، حضرت عائشہ، حضرت ام البنین۔

مساجدِ مدینہ منورہ :-

- مسجد نبوی کے علاوہ اور بہت ساری قدیمی مساجد ہیں جن میں زیارت اور نماز پڑھنی چاہیے۔ (۱) مسجد قبلتیں (۲) مسجد قبا (۳) مسجد فتح (۴) مسجد رحیم (۵) مسجد جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء (۶) مسجد امیر المؤمنین (۷) مسجد حضرت سلمان فارسی (۸) مسجد بلاں (۹) مسجد احمد

علاوہ ازیں کوہ احمد اور میدانِ جنگِ احمد و خندق، میدانِ احمد میں قبر حضرت امیر حمزہ اور دوسرے شدائے احمد، ان سب کی زیارت کرنی چاہیے۔

قلعہ خیبر اور باغِ فدک مدینہ منورہ سے تقریباً ۱۵۰ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس مقام کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔

زیارات

(عربی زبان میں)

جس وقت روضہ رسول ﷺ میں داخل ہونا چاہئے مستحب ہے کہ
باب جبریل سے داخل ہوا اور اس وقت یہ دعا پڑھے :

اللَّهُمَّ إِنِّي وَقَفَتُ عَلَى بَابِ مِنْ أَبْوَابِ بُيُوتِنِبِيلَكَ
صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ وَقَدْ مَنَعْتَ التَّاسَّ أَنْ يَدْخُلُوا
إِلَّا بِإِذْنِهِ فَقُلْتُ (يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ
النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَقِدُ حُرْمَةَ
صَاحِبِ هَذَا الْمَسْهَدِ السَّرِيفِ فِي غَيْبَتِهِ كَمَا أَعْتَقِدُهَا
فِي حَضُورِهِ وَأَعْلَمُ رَأْيَنِ رَسُولَكَ وَخُلُقَاتُكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
أَحْيَا عَجِيدَكَ يُرْزِقُونَ يَرَوْنَ مَقَارِبَ وَيَسْمَعُونَ كَلَامَ

وَيَرِدُونَ سَلَامٍ وَأَنْتَ حَجَبْتُ عَنْ سَمْعِي كَلَامَهُمْ
 وَفَتَحْتَ بَابَ فَهْمِي بِلِذِيذِ مَنَاجَاجِهِمْ وَإِنِّي أَسْتَأْذِ
 نُكَ يَارَبِّ رَأْوَلَأَ وَأَسْتَأْذِنُ رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
 ثَانِيَاً وَالْمَلَائِكَةَ الْمُوَكَّلِينَ بِهِمْذِيذِ الْبُمْعَةِ الْمُبَارَكَةِ
 ثَالِثَاً أَدْخُلُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَدْخُلُ يَا حِجَّةَ اللَّهِ أَدْخُلُ
 يَا مَلَائِكَةَ اللَّهِ الْمُقَوَّبِينَ الْمُقِيمِينَ فِي هَذَا الْمَسْهَدِ
 فَأَذْنُ لِي يَا مَوْلَايِ فِي الدُّخُولِ أَفْضَلُ مَا أَذْنَتْ لِأَحَدٍ
 مِنْ أُولَئِكَ قَاتِلُ لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذِلِّكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ
 لِذِلِّكَ،

پھر کہتا ہوا و صندھ مبارکہ میں داخل ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ وَبِإِنْسَانِهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مَلَكَتِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْأَكْمَمِ لَغُفْرَانِي وَارْحَمْنِي
 وَتَبَّعْ عَلَى إِنْكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
 سُورَتُبَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ کے
 اور درکعت نماز ہدیہ مسجد پڑھے۔

حضرت رسول خدا کی زیارت

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاتَّمَ
 النَّبِيِّينَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَقْمَتَ الْفَلَوَةَ
 وَأَيَّتَ الرِّزْكَوَةَ وَأَمْرَتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَعَبَدْتَ اللَّهَ مُحْلِصًا حَتَّىٰ أَتَيْكَ الْيَقِينُ فَصَلَوَتُ اللَّهُ عَلَيْكَ
 وَرَحْمَتُهُ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّاهِرِينَ -

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ
 أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَعْبُدُهُ وَرَسُولَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولَ اللَّهِ
 وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ بِرَسَالَاتِ
 رَبِّكَ وَنَصَحتَ لِأُمَّتِكَ وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَبَدْتَ اللَّهَ
 حَتَّىٰ أَتَيْكَ الْيَقِينُ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَأَدَّيْتَ
 الدَّيْنَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِيقَ وَأَنَّكَ قَدْ رَوَقْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ
 وَغَلَظْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكَ أَفْضَلُ شَرْفِ مَحْلِيٍّ
 الْمُكَرَّرَ مِنْ الْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَنْفَدَ نَابِكَ مِنَ الشَّرِكِ

والضلاله اللهم فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك
 المقربين وأئمباتك المرسلين وعيادك الصالحين
 وأهل السماء والأرضين ومن سبّح لك يارب العالمين
 من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك و
 نبيك وأميتك ونجيتك وحيبيك وصفيفتك وخاصتك
 وصهوتك وخيرتك من خلقك اللهم أعطيك الدرجة
 الرفيعة وأتيه الوسيلة من الجنة وابعثه مقاماً محموداً
 يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنا نتوك ولهم
 إذ ظلموا أنفسهم حاولت فاستغفر والله واستغفر لهم
 الرسول لوجود والله توأياً جيماً وإني أتوك مسعفاناً
 من ذنبوي وإني أتوكه بيك إلى الله ربى وربك ليغفر لي
 ذنبوي - اني حاجتني طلب كرسي الشاعر الله بوري هولنگ -

پھر اپس آتے وقت مستحب ہے کہ اس طرح صلوٰات بھیجے :

والحمد لله الذي من علينا بمحمد نبیه صلی الله
 علیه والسلام دون الامر الماضية والغروب التالية
 بقدرته التي لا تعجز عن شيء وان عظمر ولا يغوضها

شَيْءٌ وَإِنْ لَطْفَ فَخَمْ سِنَا عَلَى جَمِيعِ مَنْ دَرَأَ وَجَعَلَنَا
شُهْدَاءَ عَلَى مَنْ جَحَدَ وَكَثَرَ نَابِمَنِيهِ عَلَى مَنْ قَلَ اللَّهُمَّ
فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ وَنَجِيلِكَ مِنْ خَلْقِكَ
وَصَفِيفِكَ مِنْ عِبَادِكَ إِمَامِ الرَّحْمَةِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَمَفْتَاحِ
الْبَرَكَاتِ كَمَا نَصَبَ لِأَمْرِكَ لَفْسَهُ وَعَرَضَ فِيكَ لِلْمَكْرُوكُ
بَذْنَهُ وَكَاشَفَ فِي الدُّعَاءِ الْيُكَ حَامِلَهُ وَحَارِبَ فِي
رِضَاكَ أُسْرَتَهُ وَقَطَعَ فِي إِحْيَا دِينِكَ رَحْمَهُ وَأَقْصَى
الْأَذْنَيْنَ عَلَى جُحُودِهِمْ وَقَرَبَ الْأَقْصَيْنَ عَلَى اسْتِجَابَتِهِمْ
لَكَ وَإِلَيْكَ فِيكَ الْأَبْعَدَيْنَ وَعَادِي فِيكَ الْأَقْرَبَيْنَ وَأَدَابَ
نَفْسَهُ فِي تَبَلِيغِ رِسَالَتِكَ وَأَتَبَعَهَا بِالدُّعَاءِ إِلَى مَلَائِكَ
وَشَغَلَهَا بِالنُّصْحِ لِأَهْلِ دُعَوَتِكَ وَهَا جَرَى إِلَى بِلَادِ
الْفُرْبَةِ وَمَحَلِ النَّائِي عَنْ مَوْطِنِ رَجُلِهِ وَمَوْضِعِ رِجْلِهِ
وَمَسْقَطِ رَاسِهِ وَمَا نِسَنَ لَفْسِهِ إِرَادَةً مِنْهُ لِإِعْزَازِ
دِينِكَ وَاسْتِضْرَارًا عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ بِكَ حَتَّى اسْتَبَّ
لَهُمَا حَاوِلَ فِي أَعْدَائِكَ وَاسْتَمَرَ لَهُ مَادَّ بَرَ في أُولَائِكَ
نَهَمَدُ إِلَيْهِمْ مُسْتَقْتِحًا يَعْوِنِكَ وَمُتَقْوِيًا عَلَى ضَعْفِهِ

يَسْرِيكَ فَغَرَّاهُمْ فِي عُقُورِ دِيَارِهِمْ وَهَجَرَ عَلَيْهِمْ فِي بُجُوحَةٍ
 قَرَارِهِمْ حَتَّى ظَهَرَ أَمْرُكَ وَعَلَتْ كَلِمَتُكَ وَلَوْكَرَةُ الْمُشْرِكُونَ
 اللَّهُمَّ فَارْفَعْهُ بِمَا كَدَحَ فِيكَ إِلَى الدَّرَجَةِ الْعُلَيَا مِنْ جَنَاحِكَ
 حَتَّى لَا يَسْأَوِي فِي مَنْزِلَةٍ وَلَا يَكُنَّا فِي مَرْتَبَةٍ وَلَا يُوازِيهِ
 لَدَيْكَ مَلَكٌ مُقْرَبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَعَرِفْتُهُ فِي أَهْلِهِ
 الطَّاهِرِينَ وَأَمْتَهِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حُسْنِ الشَّفَاعَةِ
 أَجَلَّ مَا وَعَدْتَهُ، يَا نَافِذَ الْعِدَّةِ يَا وَالْقَوْلِ يَا مُبْدِلَ
 السَّيِّئَاتِ يَا ضَعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

زيارة حضرت فاطمة زهراء

يَا مُصْحَّحَتَهُ امْتِحَنَنِكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي وَجَدَكَ
 لِمَا امْتَحَنَنِكَ صَابِرَةً وَرَعَمْنَا أَنَّا لَكَ أَوْلَيَاءُ وَمُصَدِّقُونَ
 وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوكَ وَآثَانَا بِهِ وَصِيَّهُ،
 فَإِنَّا نَسْكَلُ إِنْ كُنَّا صَدَقَتِنَا إِلَّا الْحَقْتَنَا بِتَصْدِيقِنَا
 لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهَرْنَا بِوَلَائِتِكَ -
 حضرت فاطمة زهراء کی ایک زیارت یہ بھی نقل ہوئے:

السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بَنْتَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بَنْتَ نَبِيِّ اللَّهِ
 السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بَنْتَ حَبِيبِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بَنْتَ حَلِيلِ اللَّهِ
 السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بَنْتَ صَفِيِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بَنْتَ أَمِينِ اللَّهِ
 السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بَنْتَ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بَنْتَ أَفْضَلِ أَنْبِيَاءِ
 اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَلَائِكَتِهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بَنْتَ خَيْرِ الْبَرِّيَّةِ السَّلَامُ
 عَلَيْكِ يَا سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ السَّلَامُ
 عَلَيْكِ يَا زَوْجَهُ وَلِيِّ اللَّهِ وَخَيْرِ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ
 عَلَيْكِ يَا أُمَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدِي شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
 السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّهَا الصِّدِيقَةِ الشَّهِيدَةِ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّهَا
 الرَّضِيَّةِ الْمُرْضِيَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّهَا الْقَاضِلَةِ الْزَّكِيَّةِ السَّلَامُ
 عَلَيْكِ أَيَّهَا الْمُحَوَّرَاءِ الْإِنْسِيَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّهَا التَّقِيَّةِ
 الْزَّقِيَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّهَا الْمُحَدَّثَةِ الْعَلِيمَةِ السَّلَامُ عَلَيْكِ
 أَيَّهَا الْمَظْلُومَةِ الْمَغْصُوبَةِ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّهَا الْمُمْضِطَهَةِ
 الْمَعْهُورَةِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ وَرَحْمَةِ اللَّهِ
 وَبَرَّ كَاتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى رُوحِكِ وَبَدَنِكِ أَشْهَدُ أَنَّكِ
 مَضَيْتِ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ زَيْكِ وَأَنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ حَفَاكَ فَقَدْ جَفَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَذَاكَ فَقَدْ أَذَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ وَصَلَّى فَقَدْ وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ قَطَعَ فَقَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَا تَلِّي بِضَعْهُ مِنْهُ وَرُوحُهُ الَّذِي بَيْنَ جَنَبَيْهِ أَشْهَدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَلَائِكَتُهُ أَنِّي رَأَيْتُ عَمَّنْ رَضِيَتْ عَنْهُ سَاجِدًا عَلَى مَنْ سَخَّلْتُ عَلَيْهِ مُتَبَرِّعًا مَعَنْ تَبَرَّعِي مِنْهُ مُوَالِ لِمَنْ وَالْيُوتِي مُعَاذَ لِمَنْ عَادَ يُسْتَأْذِنُ لِمَنْ أَبْغَضْتُ مُهْبِتُ لِمَنْ أَحْبَبْتُ وَكَفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا وَحَسِيبًا وَجَازِيًا وَمُشِيبًا

زيارت کے بعد اس طرح صلوٰات بھیجے : -

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَخَاتِيرِ النَّبِيِّينَ وَخَيْرِ الْخَلَقِ أَجْمَعِينَ وَصَلِّ عَلَى وَصِيهِ عَلَى بُنَى أَيْنَ طَالِبٌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ وَخَيْرِ الْوَصِيَّينَ وَصَلِّ عَلَى فَاطِمَةَ بَنْتِ مُحَمَّدٍ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِي شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، وَصَلِّ عَلَى زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ

وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَى بَاقِرِ الْعَلِمِ وَصَلَّى عَلَى الصَّادِقِ عَنِ اللَّهِ
 جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَصَلَّى عَلَى الْكَاظِمِ الْغَيْظَارِ فِي اللَّهِ مُوسَى بْنِ
 جَعْفَرٍ وَصَلَّى عَلَى الرِّضَا عَلَى بْنِ مُوسَى، وَصَلَّى عَلَى التَّقِيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ
 عَلَى وَصَلَّى عَلَى النَّقِيِّ عَلَى بْنِ مُحَمَّدٍ. وَصَلَّى عَلَى الزَّكِيِّ الْحَسَنِ بْنِ
 عَلَى وَصَلَّى عَلَى الْحُجَّةِ الْفَائِرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَى. أَللَّهُمَّ أَخْبِرْ
 الْعَدْلَ وَأَمْتُ بِهِ الْجَوْزَ وَزَيْنَ بِطُولِ يَقَابِهِ الْأَرْضَ وَأَظْهِرْ
 بِهِ دِينَكَ وَسُنَّةَ نَبِيِّكَ حَتَّى لَا يَسْتَحْفِنَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَقِّ
 مَخَافَةً أَحَدٌ مِّنَ الْخَلْقِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَعْوَانِهِ وَآشْيَا عَلَيْهِ
 وَالْمَقْبُولِنَ فِي زُمْرَةِ أُولَئِكَ يَارَبُّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَظَهَرْتَ
 تَطْهِيرًا.

زيارتِ ائمہ لِقَعْدَتِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَجْمَعِیْنَ

يَامَوْالِیَّ يَا أَبْنَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ كُرْمَابْنِ أَهْتَکُمُ الدَّلِيلُ بَینَنَا
 أَيْدِیکُمُ وَالْمُضَعْفُ فِی عُلُوِّ فَدِرْكُمُ وَالْمُعْتَرِفُ بِحَقِّكُمُ
 جَانِلَکُمُ مُسْتَحِیْلَکُمْ قَاصِدًا إِلَى حَرَمِكُمْ مُنْقَرِبًا إِلَى

مَقَوْمُكُمْ سَوِّيْلًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِكُمْ رَأْدُخُلُ يَا مَوَالَى
 رَأْدُخُلُ يَا أُولَيَاءِ اللَّهِ وَرَأْدُخُلُ يَا مَلَائِكَةَ اللَّهِ الْمُحْدِقِينَ
 بِهَذَا الْحَرَمِ الْمُعْقِيْمِينَ بِهَذَا الْمُشَهَدِ۔ اس کے بعد کہے کہ اللہ الکبُرُ
 کَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بَكْرَةً وَأَصِيلًا
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الْمَاحِدُ الْأَحَدُ الْمُسْفَضِلُ الْمُنَانِ
 الْمُتَطَوِّلُ الْحَنَانُ الدُّنْيَا مَنْ يُطُولُهُ وَسَهَلَ زِيَارَةُ سَادَاتِ
 بِإِحْسَانِهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي عَنْ زِيَارَتِهِمْ مُمْنُوعًا بَلْ بَطَولَ
 وَمَنْحَ۔ قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
 أَئِمَّةُ الْمُهْدِيِّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ التَّقْوَىٰ۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
 أَيُّهَا الْحُجَّاجُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْقَوَافِ
 فِي الْبَرِّيَّةِ الْقُسْطِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الصَّفْوَةِ السَّلَامُ
 عَلَيْكُمْ أَلَّا رَسُولُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلُ النَّجْوَىٰ
 أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ بَلَغْتُمْ وَنَصَحَّتُمْ وَصَبَرْتُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ
 وَكُذِّبْتُمْ وَأُسْيَيْتُ إِلَيْكُمْ فَغَفَرْتُمْ وَأَشْهَدُ أَنَّكُمْ
 أَلَّا يَمْهَأُ الرَّاسِدُونَ الْمُهْنَدُونَ وَأَنَّ طَاعَتُكُمْ مَفْرُوضَةٌ
 وَأَنَّ قَوْلَكُمُ الصِّدْقُ وَأَنَّكُمْ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجَابُوا

وَأَمْرُكُمْ فَلَمْ تَطَاعُوا وَأَنْتَ كُمْ دَعَا بِئْرَ الدِّينِ وَارْسَانُ
 الْأَرْضِ لَمْ تَرَ الْوَابِعُونَ إِنَّ اللَّهَ يَسْخَكُمْ مِنْ أَصْلَابِ كُلِّ
 مُظَهَّرٍ وَيَنْقُلُكُمْ مِنْ أَرْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ لَمْ تُدْنِسْكُمْ
 الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهْلَاءُ وَلَمْ تَشْرُكْ فِي كُمْ فِيَنَ الْأَهْوَاءِ
 طِبْيَتُ وَطَابَ مَنْبِكُمْ مِنْ بِكُمْ عَلَيْنَا دِيَانُ الدِّينِ فَجَعَلَكُمْ
 فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعُ وَبِيَدِكَرَفِيهَا سُمُّهُ وَجَعَلَ
 صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنَا وَكَفَارَةً لِذُنُوبِنَا إِذَا خَاتَمُ
 اللَّهُ لَنَا وَطَيْبَ خَلْقَنَا بِمَا مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ وَلَا يَتَكُمُ وَكَنَّا
 عِنْدَكُمْ مُسْمَيْنِ بِعِلْمِكُمْ مُغَرِّفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ
 وَهَذَا مَقَامُ مَنْ أَسْرَفَ وَأَخْطَاءَ وَاسْكَانَ وَاقْرَبَ مَا
 جَنَى وَرَجَحَ بِمَقَامِهِ الْخَلَاصَ وَأَنْ يَسْتَنْقِذَهُ بِكُمْ مُسْتَنْقِذُ
 الْهَلْكَى مِنَ الرَّدَى فَلَكُوْنُوا لِشُفَعَاءَ فَقَدْ وَفَدَتْ
 إِلَيْكُمْ رَأْدَ رَغْبَ عَنْكُمْ أَهْلُ الدُّنْيَا وَاتَّخَذُوا أَيَّاتِ اللَّهِ
 هُزُوا وَاسْتَكَبُوا وَأَعْنَمُوا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا سَادَتِي
 أَنَا عَبْدُكُمْ وَمُؤْلَكُمْ زَائِرُكُمُ الْلَّا يُذْهِبُكُمْ
 أَتُوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ فِي نُجُوحِ طَلَبِتِي وَكَشْفِ كُرْبَتِي

وَاجَابَةً دَعْوَتِي وَغُفرَانًا حَوْبَتِي وَأَسْئَلَهُ أَن يَسْمَعَ
وَيُحِبِّبَ بِرَحْمَتِهِ۔

چہرہ کو اور اٹھائے اور کہے:

يَا مَنْ هُوَ قَارِئٌ لَا يَسْهُوْ وَدَائِئِمٌ لَا يَلْهُوْ
وَمُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ لَكَ الْمَنْ يِمَاؤْ فَقَتَنِي وَعَرَفَتَنِي
بِمَا أَقْتَنَتِي عَلَيْهِ إِذْ صَدَّ عَنْهُ عِبَادُكَ وَجَهْلُهُ مَعْرُوفَتَهُ
وَاسْتَخْفُوا بِحَقِّهِ وَمَا لَوْا إِلَى سِوَا لُؤْفَكَ أَنْتَ الْعِصَمَةُ
مِنْكَ عَلَيَّ مَعَ أَقْوَامٍ خَصَصْتَهُمْ بِمَا خَصَصْتَنِي بِهِ فَلَكَ
الْحَمْدُ إِذْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي مَقَامِي هَذَا مَذْكُورًا
مَكْتُوْبًا فَلَا تَحْرِمْنِي مَارِجُوتُ وَلَا تُخْبِتْنِي
فِيمَا دَعَوْتَهُ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ الطَّاهِرِينَ
وَضَبَّلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔

اس کے بعد ۸ رکعت نماز پڑھے اور چاروں اماموں
کی خدمت میں ہدایہ کرے۔



زیارتِ حضرتِ رسول اکرمؐ (اردو)

(غسل، طہارت اور وضو کر کے اور بہترین لباس اور خوشبوگا
کر جائیں)

اذن دخول درود پڑھ رسولؐ

حرمِ مطہر میں داخل ہونے سے پہلے بابِ جبریل پر کھڑے ہو
کر اندر آنے کی اجازت طلب کیجئے۔

اے اللہ! میں تیرے رسولؐ کے گھروں کے ایک دروازے پر کھڑا ہوں
اور تو نے لوگوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ ان گھروں میں بغیر اجازت
کے داخل ہوں۔ تو نے فرمایا ہے۔ اے وہ لوگوں جو خدا اور رسولؐ کو دل
سے مانتے ہو، نبیؐ کے گھروں میں ہرگز داخل نہ ہونا، جب تک تم کو داخلے
کی اجازت نہ دی جائے۔ اے اللہ! میں اس محترم گھر کی عزت اور احترام
کا ان گھروں کی غیبت میں بھی اتنا ہی معتقد ہوں جتنا ان کی ظاہری دنیوی

زندگی میں معتقد تھا۔ اور (اے اللہ) میں خوب جانتا ہوں کہ تیرے رسول اور تیرے خلفاء تیرے پاس زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں، وہ میرے اس دروازے پر کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں، میری آواز کو سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تو نے میرے کانوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ لیکن میری سمجھ کے دروازوں کو ان کی مناجات کی لذت کے لئے کھول دیا ہے۔ (یعنی میں ان کی آوازوں کو اپنی عقل و فہم کے ذریعے سمجھ سکتا ہوں)۔ اے اللہ! اے میرے پالنے والے مالک! سب سے پہلے میں تجھ سے اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگتا ہوں، پھر تیرے رسول سے اجازت مانگتا ہوں۔ پھر تیرے خلیفہ جن کی اطاعت واجب ہے (یہاں امام کا نام لیجئے جن کی زیارت پڑھ رہے ہیں، مثلاً جنت البقیع میں فرمائیے الامام الحسن ابن علی و امام علی ابن الحسین زین العابدین و امام محمد بن علی الباقر و امام جعفر الصادق، ابن محمد الباقر) پھر تیرے نمبر پر میں ان فرشتوں سے (داخل ہونے کی اجازت مانگتا ہوں) جو اس حرم مطہر و مبارک پر مقرر ہیں۔ اے اللہ کے رسول! کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اے جھٹ خدا (خدا کی دلیل)! کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اے اللہ کے مقرب اور اس روضہ مبارک میں مقیم فرشتوں! کیا میں داخل ہو جاؤں؟ پس اے میرے آقا اور مالک، مجھے اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائیں، ایسی اجازت جو افضل ترین ہو۔ جو تو نے اپنے خاص

دوستوں کو عطا فرمائی ہو۔ اے اللہ اگر میں ایسی اجازت کا اہل نہیں
ہوں تو مجھے اس کا اہل بنا دے۔

(پھر حرمِ مطہر میں ادب و احترام کے ساتھ داخل ہو جائیں اور
پڑھیں)

بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملته رسول الله صلى الله عليه
وآلله اللهم اغفر لى وارحمنى وتب على انك انت التواب الرحيم
اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے، اور اللہ کی مدد سے، اللہ کی راہ میں، اللہ
کے رسول کی ملت پر (ہونے کی وجہ سے) خدا یا مجھے خش دے، میرے
تمام گناہ معاف کر دے، مجھ پر رحم فرم، میری توبہ قبول کر لے، کیونکہ تو
بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، توجہ کرنے والا اور
سمربانی فرمائے والا ہے۔

(پھر بابِ جبریل سے داخل ہوں۔ پہلے داہم اپنی حرم میں داخل
فرمائیں اور داخل ہوتے وقت سو (۱۰۰) دفعہ اللہ اکبر پڑھیں)۔

(پھر مسجد میں کہیں بھی دو (۲) رکعت تماز، تجیہ مسجد (مسجد کے لئے تحفہ)
کی نیت سے پڑھیں کہ میں یہ دور کعت نماز مسجد نبوی کے لئے تحفہ کے طور پر
پڑھ رہا ہوں۔ پھر حجرہ شریف کی طرف جا کر اس کو ہاتھ لگانے کا صرف ارادہ

کریں اور پھر یہ سلام پڑھیں)

سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی۔ سلام ہو آپ پر اے محمد ان عبد اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے خاتم النبین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا کے پیغام کو اچھی طرح پکھایا۔ نماز کو قائم فرمایا (یعنی اللہ کے حقوق ادا کئے) زکوٰۃ کو ادا فرمایا (یعنی بندوں کے تمام حقوق ادا فرمائے) نیکی کا حکم دیا۔ برائیوں سے روکا۔ اللہ کی پورے خلوص کے ساتھ عبادت و اطاعت کی۔ یہاں تک کہ آپ کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا۔ پس آپ پر اللہ کی طرف سے خاص الناص رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوں اور آپ کے پاک گھروالوں پر بھی خدا کی رحمتیں نازل ہوں۔

(پھر آخری ستون کے پاس جو کعبہ کی طرف ہو جا کر جو قبر اطہر کے دائیں طرف ہے قبلہ رخ کھڑے ہوں اس طرح کہ داہنا کا ندھار میر رسول کی طرف ہو اور بایاں کا ندھار قبر رسول کی طرف ہو۔ یہی مقام جناب رسول کا سر ہانہ ہے۔ پھر یہ سلام پڑھیں)۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ان عبد اللہ اس کے بعد نے اور رسول

ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے پالنے والے مالک کے پیغامات کو پہنچایا۔ اور اپنی امت کو اچھی طرح حکمت کے ساتھ نصیحت فرمائی، ان کی بھلائی چاہتے ہوئے اللہ کی راہ میں بھر پور کوشش اور جہاد کیا اور اللہ کی عبادت، اطاعت اور بندگی کا حق ادا کیا یہاں تک کہ آپ کو موت آئی۔ اس طرح آپ نے اس حق کو پوری طرح ادا کیا جو آپ پر اللہ کی طرف سے عائد تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ مومنین پر بے حد مہربان رہے۔ کافروں پر سخت رہے۔ پس اللہ نے آپ کو شرافت، کرامت اور عزت کے بلند ترین مقام تک پہنچایا۔ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں آپ کے ذریعہ سے شرک اور گمراہی سے آزاد کیا۔ خدایا! اپنی خاص الخاص رحمتیں نازل فرماء اور ملائکہ مقرر ہیں اور انبیاء مرسلین اور اپنے صالح بندوں اور تمام زمینوں اور آسمانوں کے رہنے والوں کے درود و سلام محمد مصطفیٰ پر نازل فرماء اور عالمین کے پالنے والے مالک! ان سب اولین و آخرین کے درود و سلام بھی نازل فرماجو تسبیح پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ پر، جو تیرے خاص بندے ہیں، تیرے پیغام لانے والے رسول ہیں، تیرے نبی ہیں، تیرے پیغامات کے امین ہیں، تیرے خفیہ پیغامات کے رازدار ہیں، تیرے حبیب ہیں، تیرے پھنسنے ہوئے ہیں، تیرے خاص الخاص مقرب بندے ہیں، تیرے پاک کئے ہوئے بہترین مخلوق ہیں۔ اے اللہ! ان کا درجہ بلند فرماء۔ ان کو (ہمسب کے) جنت میں پہنچنے کا وسیلہ (ذریعہ) بنادے، اور ان کو مقامِ محمود (یعنی

وہ مقام جہاں خدا ہندے کی تعریف کرتا ہے، مراد مقامِ شفاعت) تک پہنچا دے۔ وہ مقام جہاں تک پہنچنے کی اولین و آخرین سب کو حضرت رہی ہے۔ (یا) وہ مقام جس پر اول و آخرین رشک کریں گے۔ اے اللہ! تو نے خود فرمایا ہے کہ ”اگر لوگ اپنے اوپر ظلم کر کے (یعنی گناہ کر کے) آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور رسولؐ بھی ان کے لئے خدا سے معافی مانگے، تو وہ سب اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ (اس لئے اے رسولؐ!) میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے آیا ہوں۔ میں آپ کے ذریعہ خدا کی طرف توجہ کر رہا ہوں، جو میرا پانے والا مالک ہے اور آپ کا بھی پانے والا مالک ہے، کہ وہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ (اب یہاں پر آپ اپنی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں طلب فرمائیں۔ خدا نے چاہا تو سب پوری ہوں گی)۔

زیارتِ حضرت فاطمہ زہراؓ

(یہ زیارت وہیں پر پڑھیں جہاں رسول خدا کی زیارت پڑھی ہے
اور پھر جنتِ ابقیع میں بھی پڑھیں)

اے وہ بُلی جس کا خدا نے اس دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے امتحان لیا۔ اور آپؐ کو صبر کرنے والا پایا۔ ہم یہ بات اس لئے جانتے ہیں کہ ہم آپؐ کے دوست ہیں اور آپؐ کی تصدیق کرنے والے ہیں اور ہر اس بات پر صبر کرنے والے ہیں جو آپؐ کے والدِ بزرگوار لے کر آئے ہیں اور جو انکے وصی (حضرت علیؑ) ہمارے لئے لائے ہیں۔ پس ہم آپؐ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ہم نے واقعی آپؐ کی تصدیق کی ہے، تو ہم اس تصدیق کے ذریعہ آپؐ کو یہ خوشخبری دے سکیں کہ ہم آپؐ کی دوستی اور سرپرستی کی وجہ سے پاک ہو گئے ہیں۔ سلام ہو آپؐ پر اے رسول اکرمؐ کی بیٹی، سلام ہو آپؐ پر اے خدا کے نبیؐ کی بیٹی، سلام ہو آپؐ پر اے خدا کے جیبیؐ کی بیٹی! سلام ہو آپؐ پر اے اللہ کے دوست خلیل اللہؐ کی بیٹی! سلام ہو آپؐ پر اے خدا کے پنے ہوئے رسولؐ کی بیٹی! سلام ہو آپؐ پر اے خدا کے امانتدار (رسولؐ) کی بیٹی! سلام ہو آپؐ پر اے خدا کے سب سے اعلیٰ اور بہترین مخلوقؐ کی بیٹی۔ (آپؐ پر ان سب کا بھی سلام

ہو) اور اللہ کے تمام رسولوں اور فرشتوں کا بھی سلام ہو۔ اے بہترین مخلوق کی بیٹی! آپ پر سلام ہو۔ اے تمام عالمیں کی عورتوں کی سردار آپ پر سلام ہو۔ اے اولین و آخرین کی تمام عورتوں کی سردار آپ پر سلام ہو، اے رسولِ خدا کے بعد سب سے بہترین مخلوق کی زوجہ! آپ پر سلام، اے امام حسن اور امام حسین کی ماں! آپ پر سلام ہو، وہ حسن و حسین جو جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے صدیقہ (چھی خاتون)! اے شہیدہ! سلام ہو آپ پر۔ اے خدا کے فیصلوں اور احکام پر راضی رہنے والی! اور خدا کی پسندیدہ ملی! سلام ہو آپ پر۔ اے صاحبِ فضیلت اور پاکیزہ ملی! سلام ہو آپ پر۔ اے نوعِ انسانی کی حور سلام ہو آپ پر۔ اے ہر برائی سے چھنے والی پاکیزہ ملی! سلام ہو آپ پر۔ اے وہ ملی ملی جن کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے تھے، جو عالم تھیں، سلام ہو آپ پر اے مظلومہ جن کا حق غصب کیا گیا۔ سلام ہو آپ پر اے مجبورو و مغلوب ملی ملی۔ سلام ہو آپ پر اے فاطمہ بنت رسول! آپ پر خدا کی خاص الخاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آپ کی روح پر بھی، اور آپ کے بدن پر بھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے پالنے والے مالک کی مرضی، دلیل اور جدت ہیں۔ آپ ہی وہ ہیں کہ جس نے آپ کو خوش کیا، اس نے اللہ کے رسول کو خوش کیا۔ اور جس نے آپ پر ظلم کیا اس نے خدا کے رسول پر ظلم کیا۔ جس نے آپ کو تکلیف دی اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی۔ جو کوئی

آپ سے مل گیا وہ رسول خدا سے مل گیا۔ جس نے آپ سے اپنا تعلق توڑ لیا اس نے خدا کے رسول سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ کیونکہ آپ ان کے (رسول خدا کے) جسم کا ملکڑا ہیں۔ ان کی روح ہیں جو ان کے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ میں اللہ کو اس کے تمام رسولوں کو اور ملائکہ کو گواہ بنتا ہوں کہ میں اس سے خوش ہوں جس سے آپ خوش ہیں۔ میں ان سب سے ناراض ہوں، جن سے آپ ناراض ہیں۔ جس نے آپ کو غمگین کیا میں ان سب سے بیزار ہوں۔ جن سے آپ بیزار ہیں میں بھی ان سے بیزار ہوں۔ میں ان سب کا دوست ہوں جن کو آپ دوست رکھتی ہیں۔ ان سب کا دشمن ہوں جن کو آپ دشمن سمجھتی ہیں۔ ان سب سے میں دلی دشمنی اور نفرت رکھتا ہوں جن سے آپ دشمنی اور نفرت رکھتی ہیں۔ میں ان سب سے محبت کرتا ہوں جن سے آپ محبت کرتی ہیں۔ (میں اس بات کے لئے اللہ کو گواہ بنتا ہوں) اور اللہ کی گواہی بہت کافی سے حساب لینے اور بد لہ اور ثواب دینے کے لئے۔

(پھر محمد و آلِ محمد پر درود پڑھیں اور دعا نگیں)

(پھر دو (۲) رکعت نماز جناب رسول خدا کی زیارت کے تحفہ کے طور پر پڑھیں اور دو (۲) رکعت نماز جناب سیدہ کی زیارت اور ان کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کے لئے پڑھیں)۔

زیارتِ ائمہ البقع

(جنت البقع کی سیر ہیوں یا ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر
یہ اذن دخول پڑھیں)

اے میرے سردارو! اے اللہ کے رسول کے فرزندو! آپ کا یہ غلام، آپ
کی کنیز کا بیٹا، آپ کے سامنے خوار و ذلیل حالت میں کھڑا ہے۔ میں آپ
کے بلند مقام کو جانتا ہوں۔ آپ کو مانتا ہوں، آپ سے پناہ مانگنے آیا ہوں،
آپ کے حرم کا ارادہ کر کے آیا ہوں، آپ کے حرم میں داخل ہونا چاہتا
ہوں، آپ کے مقام سے قریب ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعہ سے خدا
تک پہنچنا چاہتا ہوں، اے میرے سردارو کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اے اللہ
کے دوستو کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اے اللہ کے وہ فرشتو جو اس حرم کے
گرد حلقة کئے ہوئے ہو اور اسی بارگاہ میں رہتے ہو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟

(پھر بڑے احترام کے ساتھ روٹے ہوئے جنت البقع میں
داخل ہوں اور یہ پڑھیں)

اللہ بزرگ و بر تر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ تسبیح اور تقدیس میں

اللہ کے لئے ہیں صبح اور شام۔ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو کیتا ہے،
بے نیاز ہے، بزرگ و برتر ہے، ایک ہے، صاحبِ فضیلت ہے۔ احسان
کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے، وہی خدا ہے جس
نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میرے سرداروں کی زیارت پر آنے کو میرے لئے
آسان کر دیا۔ اور ان کے دیدار سے مجھے محروم نہ رکھا، بلکہ مجھ پر بے حد
احسان اور کرم فرمایا۔

جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے

زیارتِ ائمہ اہل بیت در بقیع

(پھر ائمہ معصومین یعنی حضرت امام حسن، حضرت امام زین العابدؑ، حضرت امام محمد باقرؑ اور حضرت امام جعفر صادقؑ کی قبروں کے قریب جا کر، پشت قبلہ کی طرف کر کے یہ سلام پڑھیں)

سلام ہو آپ پر اے ہدایت دینے والے امامو! سلام ہو آپ پر اے تمام برائیوں سے بچنے والو! سلام ہو آپ پر اے دنیا کے تمام لوگوں کے لئے خدا کی دلیلو! سلام ہو آپ پر اے لوگوں میں عدل کے ساتھ دین کو قائم رکھنے والو! سلام ہو آپ پر اے اہلِ صفاء و طہارت، پاک و پاکیزہ لوگو! سلام ہو آپ لوگوں پر اے رسولِ خدا کی اولادو! سلام ہو آپ پر اے نجات دلانے والو! میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے صحیح معنی میں دینِ خدا کو پہنچایا۔ لوگوں کو نصیحت فرمائی۔ ان کی بھلائی چاہی۔ اللہ کی راہ میں صبر کیا۔ آپ لوگوں کو جھٹالایا گیا، آپ کے ساتھ برائی کی گئی، مگر آپ لوگوں نے معاف کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ (خدا کی طرف سے) ہدایت یافتہ

پے امام ہیں۔ خدا سے ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ لوگوں کی اطاعت واجب ہے۔ آپ کا قول سچا ہے۔ آپ لوگوں نے خدا کے دین کی طرف لوگوں کو بلا یا لیکن آپ کے بلانے کو قبول نہ کیا گیا۔ آپ نے حکم دیا مگر اس کی اطاعت نہ کی گئی۔ حالانکہ حقیقتاً آپ لوگ ہی دینِ خدا کا استون ہیں۔ زمین و آسمان آپ ہی کی وجہ سے قائم ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ خدا کی نگاہِ خاص رہے ہیں۔ خدا نے آپ لوگوں کو پاک صلبوں میں قرار دیا ہے۔ اور ہمیشہ پاک و پاکیزہ رحموں میں منتقل فرمایا ہے۔ جہالت نے کبھی آپ کو اپنی نجاست سے آکو دہ نہیں کیا۔ اور حرص و ہوا کے فتنوں نے کبھی آپ لوگوں کے اندر شرکت یا تصرف نہیں کیا۔ (یعنی حرص و ہوا کبھی آپ کو حق سے نہ ہٹا سکے) آپ بالکل پاک و پاکیزہ ہیں اور آپ کا سر چشمہ (یعنی) آپ کے آبا و اجداد بھی پاک و پاکیزہ ہیں۔ خدا نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ آپ کو دینِ خدا کا امانتدار اور محافظہ بنا یا۔ پھر اس نے آپ لوگوں کو ان گھروں میں قرار دیا جن گھروں کو خدا بلند کرنا چاہتا ہے۔ تاکہ ان گھروں میں خدا کا ذکر کیا جائے۔ آپ پر ہمارا درود و سلام ہو۔ آپ ہمارے لئے خدا کی رحمت ہیں اور ہمارا درود و سلام بھی ہمارے لئے خدا کی رحمت ہے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اس لئے کہ خدا نے آپ کو ہمارے واسطے چنان ہے۔ ہماری خلقت کو آپ کی ولایت اور دوستی کی وجہ سے پاک کر کے ہم پر احسان کیا ہے۔ آپ لوگوں کے جانے بچانے کی وجہ سے ہم اللہ کے نزدیک نامی گرامی ہوئے

ہیں۔ آپ لوگوں کی تصدیق کرنے ہی کی وجہ سے ہم (خدا کے نزدیک) اعتراف کرنے والے قرار پائے ہیں۔

ہمارا آپ کے سامنے کھڑا ہونا آپ بالکل اس مجرم کا سا کھڑا ہونا ہے جس نے زیادتیاں اور غلطیاں کی ہوں۔ جو سر جھکائے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہو۔ اور یہاں کھڑے ہونے سے یہ امید لگائے ہوئے ہو کہ اسے نجات مل جائیگی اور اللہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک و بر باد ہونے سے رہا کر دے گا۔ پس آپ لوگ ہمارے شفیع ہو جائیں۔ میں آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا ہوں جب دنیا والوں نے آپ کی طرف سے منہ پھیر لیا ہے۔ اور اللہ کی آیتوں (یعنی آپ کا) مذاق اڑایا ہے اور آپ سے تکبر کیا ہے۔ اور آپ کا انکار کیا ہے۔

اے اللہ! جو قائمِ داہم ہے اور جو بھولتا نہیں! جو ہمیشہ سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے! تیرا ہم پر احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی (کہ ہم آلِ محمد کے پاس آئے) اور تو نے ہمیں ان کی عظمت کو پہنچوایا اور ہمیں ان کی معرفت پر قائم رکھا۔ جبکہ تیرے ہندوؤں نے اپنی عقل کے دروازے ان کی معرفت حاصل کرنے سے بند کر رکھے ہیں۔ ان کی معرفت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے حق کو چھوٹا سمجھا

ہے۔ ان کے غیر کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ مگر اے اللہ! مجھ پر یہ تیر ابڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ مخصوص فرمایا (جو محمد وآل محمد کے حق کو پہچانتے ہیں)۔ وہ بھی ان کے حق کو پہچاننے کی وجہ سے۔ پس ساری تعریف تیرے ہی لئے سزاوار ہے کہ تو مجھے اس مقام پر لاایا کہ اب میں تیرے نزدیک اس قابل ہو گیا کہ تو مجھے یاد کرے، میرا نام اپنے خاص بندوں میں لکھئے۔

پس مجھے ان تمام چیزوں سے محروم نہ رکھنا جن کے ملنے کی میں امید رکھتا ہوں اور مجھے ان چیزوں سے بھی محروم نہ رکھنا جن کے لئے میں نے تجھ سے دعا کی ہے۔ اس عزت اور حرمت کی وجہ سے جو محمد وآل محمد کو تیرے نزدیک حاصل ہے، جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ اے اللہ! خاص الخاص رحمتیں نازل فرمائیں اور آل محمد پر۔

(دعا کریں۔ انشاء اللہ قبول ہو گی)

شیخ طوسی نے فرمایا کہ اس کے بعد دو (۲) دو (۲) رکعت کر کے آٹھ (۸) رکعت نماز پڑھیں، ہر امام کی زیارت کی دو (۲) رکعت نماز کے طور پر۔

جب مدینہ سے جانے لگیں تو یہ زیارت پڑھیں

زیارت وداع

اے ہدایت کے امامو! آپ پر سلام ہو۔ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر سلام بھیجتا ہوں۔ ہم نے اللہ کو دل سے مانا ہے۔ اس کے رسول کو دل سے مانا ہے۔ اور جو کچھ آپ لوگ خدا کے پاس سے لائے ہیں اور جس بات کی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے اس کو دل سے مانا ہے۔ اس لئے اے اللہ! ہم کو بھی حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔

(جنتِ ابیقیع میں یہ زیارت ضرور پڑھیں)

زیارتِ جامعہ

(یہ زیارت حضرت امام علی نقیؑ نے لکھوائی اور سند اور متن کے اعتبار سے سب سے زیادہ معتبر زیارت ہے اور ہر امام کے روضہ پر پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بہترین زیارت ہے جو معرفتِ امام کا بہترین سرچشمہ بھی ہے۔ اور ہر امام کے لئے پڑھی جا سکتی ہے۔ نیت کیجئے کہ اپنی طرف سے اور اپنے والدین، بھائی بھن، رشتہ دار اور تمام مومنین و مومنات کی طرف سے زیارتِ جامعہ پڑھتا ہوں سنت قربۃ الالٰ اللہ)

سلام ہو آپ پر اے اہلِ بیتِ نبوت! اے نبوت کے گھروالو، اے خدا کے پیغام پہنچانے والو کے مرکز! اے وہ جن کے پاس فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، اے وہ لوگ جہاں خدا کی وحی اترا کرتی ہے! اے رحمتِ خداوندی کے سرچشمو! اے علم کے خزانوں کے رکھوالو! اے حلم و صبر کی انتہا والو! اے فضل و کرم، غشش و عطا کی بیادو، اے قوموں کے رہبر اور سردارو۔ اے خدا کی نعمتوں کے مالکو اور محافظو، اے نیک لوگوں کے سردارو، اے صاحبانِ خیر کے ستونو،! اے اللہ کے بندوں کے امور اور معاملات کی

تمہیر کرنے والو، اے شہروں اور ملکوں کی بھیادو، اے ایمان کے دروازو،
 اے خدائے رحمان کے امانتارو، اے انبیاءؑ کرامؓ کی اولادو اور جوہرو، اے
 کائنات کے پالنے والے مالک کے چنے ہوئے ہندو، محمدؐ (مصطفیؐ) کی
 عترت اور اولادو! آپ سب پر خدا کی خاص برکتیں ہوں۔

۲

سلام ہو آپؐ پر اے ہدایت دینے والے امامو، اے اندھیرے کے چراغو،
 اے برائیوں سے چنے والو اور فرائضِ الہیہ کے ادا کرنے والوں کے لئے
 آگے بڑھنے کے نشانو، اے صاحبانِ عقل و فراست! اور خدا کی دلیلو اور
 جھتو کے مالکو! اے دنیا والوں کے لئے ہدایت کے مرکزو! اے انبیاءؑ کرامؓ
 کے دارشو! اے بہترین اور بلند ترین نمونہ ہائے عمل! اے بہترین اور
 حسین ترین پیغام کی طرف بلا نے والو! اور اللہ کی طرف سے تمام دنیا والوں
 اور آخرت والوں کے لئے خدا کی جھتو اور دلیلو! تم پر اللہ کی رحمتیں اور
 برکتیں نازل ہوں۔

۳

سلام ہو آپؐ پر جو خدا کی معرفت کا مقام، مرکز اور محو ہیں، جو خدا کی
 برکتوں اور رحمتوں کا مسکن اور نیحکانہ ہیں، خدا کی حکمتوں کے خزانے ہیں،

خدا کے رازوں کے محافظ ہیں، خدا کی کتاب کے اٹھانے والے اور حفاظت کرنے والے ہیں، خدا کے نبی کے جانشین ہیں، اور رسول خدا کی اولاد ہیں۔ آپ سب پر اللہ کی خاص الناص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔

۳

سلام ہو آپ لوگوں پر جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، خدا کی مرضی اور خوشی کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، خدا کے حکم پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، خدا کی محبت میں کامل اور اکمل ہیں، خدا کی یکتا نی اور توحید کے معاملے میں سرتاپا مخلص ہیں، خدا کے امر و نہی کو ظاہر کرنے والے اور بتانے والے ہیں، جو خدا کے ایسے معزز بندے ہیں جو بال کے برابر بھی خدا کے حکم سے انحراف نہیں کرتے، بلکہ خدا کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ آپ پر اللہ کی خاص الناص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔

۵

سلام ہو ان اماموں پر جو حق کی طرف بلانے والے ہیں، ہدایت کرنے والوں کے پیشووا ہیں، سردار اور سب کے آقا ہیں، دشمنوں سے دفاع کرنے والے محافظ ہیں، اہل ذکر ہیں (یعنی) قرآن کے معنی بتانے کے اہل ہیں، اور اولو لا مر ہیں (یعنی) ان کی اطاعت کو خدا نے واجب فرمایا ہے۔ یہ

وہ ہیں جن کو خدا نے باقی رکھا ہے اور جو خدا کے پنے ہوئے ہیں، جو خدا کا لشکر ہیں، خدا کے علم کا خزانہ اور مخزن ہیں، خدا کی دلیل ہیں اور خدا کا راستہ ہیں، خدا کا نور ہیں اور خدا نے میر بان کی کھلی ہوئی جھٹ ہیں، تم سب پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔

۶

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ اکیلا اور ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جیسا کہ اس نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اور اس کے فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے اور تمام اہل علم نے جو اس کی مخلوق ہیں، یہی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد مصطفیٰ خدا کے پنے ہوئے خاص ہدے ہیں، خدا کے پسندیدہ رسول ہیں، خدا نے ان کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ وہ تمام ادیان پر غالب آئیں، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو لا کھنا پسند ہی کیوں نہ ہو۔

۷

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہی ہدایت کرنے والے پچ امام ہیں۔ اور خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ آپ لوگ معصوم بھی ہیں اور

عزت والے بھی، خدا کی بارگاہ میں مقرب بھی ہیں اور متین بھی۔ (یعنی ہر قسم کی برائیوں سے پاک بھی) آپ لوگ چے بھی ہیں اور خدا کے چنے ہوئے بھی، خدا کی اطاعت کرنے والے بھی ہیں اور اس کے احکامات کو دنیا میں قائم رکھنے والے بھی، خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والے بھی ہیں اور خدا کی بارگاہ میں عزت و شرف رکھنے والے بھی، خدا نے اپنے علم کی بیان پر آپ لوگوں کو چنا، اپنے غیب کے لئے آپ لوگوں کو پسند فرمایا، اپنے رازوں کی حفاظت کے لئے آپ لوگوں اپنایا۔ اپنی قدرت سے آپ لوگوں کا انتخاب کیا، اپنی ہدایت دے کر آپ لوگوں کو عزت خشی۔ اپنی دلیل و برہان دے کر آپ لوگوں کو خصوصیت خشی، اپنے نور (ہدایت) کے لئے آپ لوگوں کو چنا، اپنی روح کے ذریعہ آپ لوگوں کی مدد فرمائی، اپنی زمین میں آپ لوگوں کو اپنا خلیفہ بنایا، پوری مخلوقات پر آپ لوگوں کو اپنی جست اور دلیل قرار دیا، آپ لوگوں کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے رازوں کا محافظ قرار دیا، اپنے علم اور حکمت کا خزانہ آپ کے سپرد کیا، آپ کو اپنی وحی کا ترجمان اور اپنے پیغامِ توحید کی بیانوں میں اپنی مخلوقات پر گواہ اور اپنے بندوں کے لئے ہدایت کا نشان بنایا، اپنے شہروں کے لئے قند میل ہدایت اور اپنے راستے کے لئے دلیل قرار دیا۔ خدا نے آپ لوگوں کو ہر قسم کی لغزش اور غلطی سے محفوظ رکھا۔ برائیوں اور فتنوں سے چائے رکھا۔ ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک رکھا، ہر قسم کے رجس (گناہ) سے آپ کو دور

رکھا، اور آپ ہلوگوں کو ایسا پاک و پاکیزہ، طبیب و طاہر رکھا جو پاکیزگی کی حق ہے۔

۸

آپ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کی عظمت و جلال کی تعظیم کی، خدا کی شان و شوکت کو بلند کیا۔ خدا کی نیشنشوں اور عطاوں کی عظمت کو بیان کیا، خدا کے ذکر کو قائم و دائم کیا، خدا کے عہدو پیمان کو مظبوط کیا، خدا کی اطاعت کے بندھنوں کو مستحکم کیا، ظاہرا بھی اور چھپ کر بھی۔ آپ نے خدا کی خاطر لوگوں کو خیر خواہی کی اور ان کو نصیحت کی، اور اس طرح آپ لوگوں نے دنیا والوں کو خدا کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا�ا۔ خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لئے آپ ہلوگوں نے اپنی جان تک خرچ کر دی۔ اور خدا کی خاطر ہر ستم اور صیبتوں پر صبر کیا۔ نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، نیکی کی ترغیب دی، بُرائیوں سے روکا، اور خدا کے راستے میں ایسا جہاد اور بھر پور کوششیں کی کہ جو جہاد کرنے کا حق ہے (آپ ہلوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا حق ادا کر دیا) یہاں تک کہ آپ ہلوگوں نے خدا کے پیغام اور دعوت کو ہر طرف پھیلا دیا۔ خدا کے مقرر کئے ہوئے فرائض کو بیان کیا۔ خدا کے حدود کو قائم کیا۔ اس کے احکامات اور شریعت کو عام لوگوں میں پھیلایا۔ خدا کے طریقوں کو جاری کیا۔ اور اس کام کے لئے آپ ہلوگوں

نے خود کو خدا کی مرضی پر راضی رکھا، خدا کے فیصلوں پر سرتلیم خمر رکھا، اور خدا کے تمام گزرے ہوئے پیغمبروں کی (اپنے قول و عمل سے) تصدیق فرمائی۔

۹

(اے آلِ محمدؐ کے ائمہ اطہارؑ!

جو بھی آپؐ لوگوں سے اپنا منہ موڑے گا وہ ہلاک و برباد ہو گا اور جو آپؐ لوگوں سے تعلق جوڑے رکھے گا، وہی آپؐ کے ساتھ ہو گا۔ جو آپؐ کے حقوق ادا کرنے میں کوتا ہی کرے گا، وہ تباہ ہو گا۔ (اس لئے کہ) حق آپؐ لوگوں ہی کے ساتھ ہے، آپؐ لوگوں ہی میں ہے، آپؐ ہی سے ہے اور آپؐ ہی کی طرف ہے، آپؐ لوگ ہی حق کے اہل اور سرچشمہ ہیں۔ نبوت کی میراث آپؐ لوگوں ہی کے پاس ہے۔ تمام مخلوق کو آپؐ لوگوں ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ ان سب کا حساب لینا آپؐ ہی کے ذمہ ہے، سب کا فیصلہ کرنا آپؐ ہی کے اختیار میں ہے۔ خدا کی آیات، نشانیاں اور دلیلیں آپؐ ہی کے پاس ہیں۔ خدا کے ارادے آپؐ لوگوں ہی کے ذریعہ پورے ہوتے ہیں۔ خدا کا نور ہر آن آپؐ ہی کے پاس ہے۔ اور خدا کا حکم آپؐ لوگوں ہی کی (اطاعت اور محبت کی) طرف ہے۔ جس نے آپؐ سے دشمنی رکھی، اس نے خدا سے دشمنی رکھی۔ اور جس نے آپؐ سے پناہ مانگی، اس نے خدا سے پناہ مانگی۔

(کیونکہ) آپ لوگ ہی وہ راستہ ہیں جو مضبوط اور پاسیدار ہے۔ آپ لوگ خدا کی فنا ہونے والی دنیا میں خدا کے گواہ ہیں اور اس کی باقی رہنے والی دنیا میں شفاعت کرنے والے ہیں۔ آپ لوگ خدا کی وہ رحمت ہیں جو مسلسل برس رہی ہے۔ آپ خدا کی آئیوں، نشانیوں اور دلیلوں کے خزانے ہیں۔ خدا کی محفوظ امانت ہیں۔ اور آپ لوگ وہ دروازہ ہیں جس کے بارے میں تمام انسانوں کا امتحان لیا جائے گا، جو آپ لوگوں تک پہنچ گاو، ہی نجات پائے گا، اور جو آپ لوگوں تک نہیں پہنچ گا، وہ ہلاک و بر باد ہو گا۔ آپ لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اس کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی کو دل سے (اپنا مالک) مانتے ہیں۔ اسی کے آگے سر تسلیم جھکاتے ہیں۔ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اسی کے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اسی کے حکم کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ کامیاب ہوا، جس نے آپ کو اپنا سر پرست بنایا اور دوست رکھا۔ اور ہلاک و بر باد ہوا جس نے آپ لوگوں سے دشمنی کی۔ ناکام اور بر باد ہوا وہ جس نے آپ کا انکار کیا۔ اور گمراہ ہوا وہ جو آپ لوگوں سے الگ ہوا۔ اور کامیاب ہوا وہ جو آپ سے جڑا رہا۔ اور امن و امان میں رہا وہ جس نے آپ لوگوں کی پناہ لے لی۔ اور سلامت رہا وہ جس نے آپ لوگوں کی تصدیق کی۔ اور ہدایت پائی اس نے جو آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ رہا۔ جو آپ لوگوں کے پیچھے

یتھے چلا اس کا ٹھکانہ جنت بنا اور جس نے آپ لوگوں کی مخالفت کی، اس کا ٹھکانہ دوزخ بنا۔ (اس لئے کہ) جو آپ لوگوں کو نہ مانے گا وہ کافر (معرِ حق) ہے۔ جو آپ لوگوں سے جنگ کرے وہ مشرک (کے حکم میں) ہے۔ جو آپ لوگوں کو رد کرے گا وہ جنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے۔

11

میں گواہی دیتا ہوں آپ لوگوں کی یہی خصوصیات پچھلے گزرے ہوئے زمانوں میں بھی تھیں اور آئندہ آنے والے تمام زمانوں میں بھی باقی رہیں گی۔ آپ سب لوگوں کی روحیں، نور اور طینت ایک ہے، جو بالکل پاک و پاکیزہ ہے۔ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے نور کی شکل میں پیدا کیا اور پھر آپ لوگوں کو اپنے عرش پر رکھا۔ یہاں تک کہ خدا و عالم نے آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم پر احسان فرمایا کہ آپ لوگوں کو ان گھروں میں رکھا جن کے لئے خدا نے یہ اجازت دی کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے اور ان میں خدا کا ذکر کیا جائے۔

اور ہم لوگ جو آپ پر درود و سلام بھجتے ہیں اس کو، اور اس بات کو کہ ہم کو خدا نے خاص طور پر آپ لوگوں کی محبت کرنے کے لئے مخصوص فرمایا، ان دونوں چیزوں سے ہماری خلقت کے لئے پاکیزگی حاصل ہوئی اور ہمارے نفوس کو طہارت ملی اور یہ کہ آپ کی محبت اور درود و سلام نے

ہماری ذات کا تزکیہ کیا (یعنی ہمیں گناہوں سے پاک کیا) اور یہ چیزیں
ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئیں۔ پس ہم خدا کے سامنے آپ کی فضیلت و
بلندی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اپنی اسی تصدیق کے ذریعہ ہم خدا کی بارگاہ
میں پہچانے جاتے ہیں۔ (یعنی محمدؐؑ سے محبت کرنا ہماری پہچان
ہے)۔

خدا عالم نے خاص طور پر آپ حضرات کو اپنے محترم اور مکرم (عزت
والے) ہندوں میں نہایت اعلیٰ مرتبہ پر فائز فرمایا ہے۔ خدا کے مقرب
ہندوں میں سب سے اعلیٰ منزل آپ لوگوں کو حاصل ہے۔ آپ لوگوں کو
خدا کا پیغام پہنچانے والوں میں سب سے بلند درجہ دیا گیا ہے۔ (آپ لوگوں کو
انتسابدہ درجہ دیا گیا ہے کہ) وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نہ کوئی شخص اس سے
بلند ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی اس مرتبہ سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور نہ کوئی اس
مرتبے تک پہنچنے کی امید رکھ سکتا ہے یہاں تک کہ کوئی نبی یا پیغمبرؐ ہی کیوں
نہ ہو، کوئی صدقیق یا شہید ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی عالم ہو یا جاہل، کوئی پست ہو یا
بلند، کوئی مومن صالح ہو یا فاسق و فاجر، کوئی جابر حاکم ہو یا کوئی شیطان
مردود، (ان میں کوئی بھی آپ کے بلند درجوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا) اور
خدا کی ان تمام مخلوقات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جسے اللہ نے آپ لوگوں
کی معرفت نہ کرائی ہو۔ اور (یہ نہ بتایا ہو کہ) آپ لوگ کس قدر جلیل
القدر اور عظیم الشان لوگ ہیں، آپ لوگوں کی ہستیاں کتنی عظیم ہیں! آپ

لوگوں کا مرتبہ کتنا بدھ ہے! اور آپ لوگوں کا نور کتنا کامل ہے! آپ لوگوں کا مقام کتنا سچا اور حقیقی ہے! آپ لوگوں کی منزلت کتنی مضبوط اور مستحکم ہے، آپ لوگوں کا مقام کتنا باو قار ہے، خدا کی بارگاہ میں آپ لوگوں کا کیا انچا مقام ہے! خدا کے نزدیک آپ لوگوں کی کتنی عزت ہے! خدا کے پاس آپ لوگوں کو کتنی خصوصیت حاصل ہے! اور آپ لوگ خدا سے کتنی قربت کی منزلت رکھتے ہیں!۔

۱۲

آپ لوگوں پر میرے ماں باپ قربان، میرے سب گھروالے قربان، میرے اہل و عیال قربان، میری عزت و مال اور خاندان قربان۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کرتا ہوں اور آپ سب کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو دل سے مانتا ہوں اور ان تمام باتوں کو بھی دل سے مانتا ہوں جسے آپ لوگ مانتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے دشمنوں کا انکار کرتا ہوں، آپ لوگوں کی بڑائی اور شان و شوکت کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کے دشمنوں اور مخالفوں کی گمراہی کو جانتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے بھی محبت رکھتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آپ کے دشمنوں کا مخالف ہوں۔ جس سے آپ صلح کرتے ہیں، ان سے میری بھی صلح ہے۔ جس سے آپ جنگ کریں ان سے میری بھی جنگ ہے۔ جس بات کو آپ

حق کہیں، میں اس کو حق مانتا ہوں اور جسے آپ باطل یا غلط قرار دیں، میں بھی اسے باطل اور غلط سمجھتا ہوں۔ میں آپ کا فرماں بردار ہوں، آپ لوگوں کا حق پہچانتا ہوں۔ آپ لوگوں کی فضیلت اور شرافت کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے علم کا اٹھانے والا (حاصل کرنے والا) ہوں۔ آپ لوگوں کے عہدو پیمان کا ذمہ دار ہوں۔ آپ لوگوں کا اعتراف کرنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کے دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آنے کا یقین رکھنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کی رجعت کو ماننے والا ہوں۔ آپ لوگوں کی حکومت کا انتظار کرنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کی سلطنت کی امید رکھنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کا حکم قبول کرنے والا ہوں اور آپ لوگوں کے حکم پر عمل کرنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کی پناہ میں آنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کی زیارت کرنے کے لئے آنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کی قبروں سے لپٹنے والا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں آپ لوگوں کی سفارش کا طلبگار ہوں۔ آپ لوگوں کے ذریعہ خدا سے قریب ہونے کا امیدوار ہوں۔ اپنے تمام معاملات، حالات، ضروریات، حاجات اور ارادوں میں آپ لوگوں کو آگے رکھنے والا ہوں۔ (یعنی اپنی ہربات میں آپ کی مرضی کو ترجیح دینے والا ہوں) آپ لوگوں کے ظاہر، باطن، شاہد و غائب اور اول و آخر کو دل سے ماننے والا ہوں۔ اپنے تمام معاملات کو آپ کے سپرد کرنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے اپنا سر جھکانے والا ہوں، میرا دل آپ لوگوں کو تسلیم کر چکا ہے۔

میری ہر رائے آپ کی پیروی کرنے والی ہے۔

میں ہر وقت آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں، یہاں تک کہ خدا اپنے دین کو آپ لوگوں کے ذریعے دوبارہ زندہ کرے، اور آپ کی حکومت کے زمانے کو واپس لائے۔ اپنا عدل قائم کرنے کے لئے آپ لوگوں کو غلبہ عطا فرمائے اور اپنی زمین پر آپ لوگوں کو پورا بقسطہ، طاقت اور شان و شوکت عطا فرمائے۔

۱۳

(اے میرے سردارو) میں آپ لوگوں ہی کے ساتھ ساتھ ہوں۔ آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں جیسی محبت آپ لوگوں کے اول سے کرتا ہوں، ویسی ہی محبت آپ لوگوں کے آخری سے کرتا ہوں اور میں خدا کی بارگاہ میں آپ کے دشمنوں سے بیزاری اور علیحدگی چاہتا ہوں۔ خواہ وہ بت ہوں، ظالم حکمراء ہوں، شیاطین وقت ہوں یا ان کے ظالم ساتھی ہوں۔ (میں ان سب سے بیزاری اور علیحدگی چاہتا ہوں) یعنی میں آپ لوگوں کی سرپرستی اور محبت میں شرک کرنے والوں سے بیزار ہوں۔ آپ لوگوں کی میراث غصب کرنے والوں سے علیحدہ ہوں۔ آپ لوگوں کے بارے میں شک کرنے والوں سے بیزاری اور علیحدگی چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے ہٹ جانے والوں سے ہٹ جانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کے

علاوہ جن لوگوں کی بھی اطاعت کی جاتی ہے، ان سب سے یہ زار ہوں۔ ان تمام رہنماؤں سے خدا کی بارگاہ میں علیحدگی اور یہ اری چاہتا ہوں جو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ (اس لئے) اللہ مجھے ہمیشہ آپ لوگوں کی ولایت، سر پرستی، محبت اور دین پر ثابت قدم رکھے۔ آپ لوگوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کی شفاعة عطا فرمائے۔ مجھے آپ لوگوں کے نیک چاہنے والوں میں قرار دے۔ ان لوگوں میں قرار دے جو آپ لوگوں کے پیغام پر قدم بہ قدم چلتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو آپ لوگوں کے نقشِ قدم کو اپناتے ہیں۔ آپ لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ محسور ہونے والے ہیں۔ آپ لوگوں کے زمانہ رجعت میں واپس آنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کے دور حکومت میں حکومت کرنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کے زمانہ عافیت میں شرف پانے والے ہیں۔ آپ کے دور حکومت میں حکومت کرنے والے ہیں۔ اور کل آپ لوگوں کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے ہیں۔

میری جان، مال، ماں، باپ، اولاد، اہل و عیال سب آپ لوگوں پر قربان ہو جائیں۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ خدا تک پہنچنے اس کو آپ لوگوں ہی سے

ابتداء کرنی چاہیے۔ جو شخص بھی خدا کی وحدانیت کا قائل ہے، اس کا عمل آپ ہی کے ذریعہ قبول ہوگا۔ جو خدا کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اسے آپ لوگوں ہی کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ اے میرے سردارو! میں آپ لوگوں کی تعریف پوری طرح نہیں کر سکتا۔ نہ آپ لوگوں کی قدر و منزلت کو پہچان سکتا ہوں۔ آپ لوگ نیک لوگوں کا نور ہیں۔ نیک لوگوں کی ہدایت کرنے والے رہنماء ہیں اور خدا وہ عالم کی طرف سے (اس کی مخلوق پر) جحت اور دلیل ہیں۔ آپ لوگوں ہی کے ذریعہ خدا نے اپنی مخلوقات کی ابتداء کی اور آپ لوگوں ہی پر ان کا خاتمہ ہوگا۔ آپ لوگوں ہی کی برکت سے بارشیں برستی ہیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے زمین و آسمان اپنی جگہ خدا کی اجازت سے قائم ہیں۔ آپ لوگوں ہی کی وجہ سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور آپ لوگوں ہی کی وجہ سے مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس وہ سب کچھ ہے جو رسولوں کے ذریعہ نازل ہوا تھا۔ جو کچھ بھی فرشتے لے کر آتے تھے وہ سب آپ کے پاس محفوظ ہے۔ آپ ہی کے جدِ بزرگوار (محمد مصطفیٰ) کے پاس جبریل امین آیا کرتے تھے (اگر حضرت علیؑ کی زیارت پڑھ رہے ہوں تو جدِ بزرگوار کے جائے برا در محترم کہے)

خدا وہ عالم نے آپ لوگوں کو ایسی ایسی نعمتیں اور مرتبے عطا کئے ہیں جو کسی کو نصیب نہ ہوئے۔ ہر صاحبِ شرف اور صاحبِ فضیلت آپ لوگوں کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے۔ ہر بڑا بننے والا آپ کے سامنے اطاعت کے

لئے جھکا ہوا ہے۔ ہر جابر و ظالم آپ کی فضیلت کے سامنے سر نگوں ہے۔ ہر چیز آپ کے سامنے کمزور اور حقیر ہے۔ زمین آپ کے نور سے جگما رہی ہے۔ کامیاب ہونے والے آپ کی محبت اور سر پرستی کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں ہی کے ذریعہ لوگ خدا کی رضامندی کے راستے پر چلے ہیں۔ جو شخص بھی آپ لوگوں کی ولایت، حکومت، سر پرستی اور محبت کا انکار کرتا ہے، اس پر خدا نے رحمان غلبناک ہوتا ہے۔

۱۵

میری جان، مال، اولاد، اہل و عیال، مال باپ سب آپ لوگوں پر قربان ہوں۔ ذکر کرنے والوں کے درمیان آپ لوگوں کا ذکر ہے۔ خدا کے خاص ناموں کے درمیان آپ لوگوں کے نام ہیں۔ خدا کے پاک کئے ہوئے جسموں میں آپ لوگوں کے جسم ہیں۔ خدا کی خاص پیدا کی ہوئی روحوں میں آپ لوگوں کی ارواح ہیں۔ خدا کے خاص طور پر پاک کئے ہوئے نفوس میں آپ لوگوں کے نفوس ہیں۔ خدا کے خاص نشانات کے درمیان آپ لوگوں کے نشانات ہیں۔ اور خدا کی پسندیدہ قبروں میں آپ لوگوں کی قبریں ہیں۔ پس کس قدر میٹھے ہیں آپ لوگوں کے نام! کتنے بلند ہیں آپ لوگوں کے نفوس! کتنی بڑی ہیں آپ لوگوں کی شان! کتنا اُنچا ہے آپ لوگوں کا مقام! کتنا زیادہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں آپ لوگ! کتنا سچا

ہے آپ ہو گوں کا وعدہ! آپ ہو گوں کا کلام سرتاپ انور ہی نور ہے (یعنی ہدایت کا سامان ہے) آپ ہو گوں کا حکم سرتاپ ہدایت ہے۔ آپ ہو گوں کی نصیحت (تقویٰ) برائیوں سے بچتے رہنا ہے۔ آپ کے سب نام اچھے ہیں۔ آپ ہو گوں کی عادت دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ آپ ہو گوں کی خصلت عطا کرنا ہے، آپ ہو گوں کی شان حق، صداقت اور رفاقت (ساتھ دینا) اور مہربانی کرنا ہے۔ آپ کا ہر قول حکمت ہے اور یقینی طور پر درست ہے۔ آپ ہو گوں کی رائے علم ہے، حلم ہے اور عقل و دانش ہے۔ جب بھی کسی اچھی بات کا ذکر چھڑے تو آپ ہو گہی اس اچھائی کی اصل بحیاد ہیں، شاخ ہیں، اس میں سب سے اول ہیں، اس اچھائی کا سرچشمہ ہیں، اس کا ٹھکانہ ہیں اور اس کی انتہا ہیں۔

۱۶

میرے ماں باپ، میری اولاد آپ ہو گوں پر قربان۔ میں کس طرح آپ ہو گوں کی بہترین تعریف کر سکتا ہوں؟ اور کس طرح آپ کی خوبیوں کا شمار کر سکتا ہوں؟ (آپ کی فضیلت اور شرافت میرے وہم و گمان سے بہت بلند ہے) آپ ہو گوں ہی کے ذریعہ سے خدا نے ہمیں (گمراہیوں کی) ذلت سے چالا۔ ہماری سخت ہولناک پریشانیاں دور کیں۔ ہمیں ہلاکت بدی اور جہنم کی آگ کے گڑھے میں گرنے سے چالا۔ میرے ماں باپ اور

میری جان سب کچھ آپ پر قربان۔ آپ لوگوں کی سر پرستی اور محبت ہی کے سبب ہم نے اپنے دین کی روشن تعلیمات کو سیکھا۔ اور ہماری دنیا کے بجودے ہوئے کام ٹھیک ہوئے۔ آپ لوگوں ہی کی محبت اور سر پرستی کی وجہ سے (دینِ حق کا کلمہ) مکمل ہوا۔ نعمتیں عظیم ہوئیں۔ لوگوں کی علیحدگی، دشمنی اور نفرت، محبت سے بدل گئی۔ آپ لوگوں ہی کی ولایت، سر پرستی اور محبت کی وجہ سے واجب اطاعتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں سے محبت کرنا واجب ہے۔ آپ لوگوں کے درجات بلند ہیں۔ آپ لوگوں کا مقام قابل تعریف ہے۔ خداۓ بلند وبالا کی بارگاہ میں آپ لوگوں کا مرتبہ مقرر اور معین ہے۔ آپ لوگوں کا مرتبہ عظیم ہے اور آپ کی شان و شوکت بہت بڑی ہے۔ آپ لوگوں کی شفاعت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔

دعا

اے ہمارے پالنے والے مالک! تو نے جو کچھ بھی اتارا ہے، ہم نے اس کو دل سے مانا ہے۔ اور تیرے رسول کی پیروی کی ہے۔ ہمیں اس بات کے گواہوں میں لکھ دے۔ اے ہمارے پالنے والے مالک! بدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو میزبانہ ہونے دینا۔ ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا فرم۔ حقیقتاً تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ہمارا پالنے والا مالک ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمارے پالنے والے مالک کا وعدہ یقینی طور پر پورا ہونے والا ہے۔

اے ولیٰ خدا! میرے اور خدائے عز و جل کے درمیان بہت سے گناہ حاصل ہیں۔ جو آپ کی خوشنودی کے بغیر دور نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں کو اس ذات کا واسطہ جس نے آپ کو اپنے رازوں کا امین ہتایا ہے اور اپنی مخلوق کے تمام کاموں کی نگرانی آپ کے سپرد کی ہے اور آپ لوگوں کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ قرار دیا ہے۔ آپ میرے گناہ خشود صحیح۔ میری شفاعت کرنے والے من جائیے۔ (کیونکہ) میں آپ لوگوں کی اطاعت کرنے والوں۔ جس نے آپ کی اطاعت کی، اس نے خدا کی اطاعت کی۔ جس نے آپ کا ہمانہ مانا، اس نے خدا کا ہمانہ مانا۔ جس نے آپ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ جس نے آپ کو ناراض کیا، اس نے خدا کو ناراض کیا۔

اے اللہ! اگر کچھ ایسے شفاعت کرنے والے ہوتے جو حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے اہلبیت کرام اور انہے معصومین سے بھی زیادہ تیری بارگاہ میں مقرب ہوتے، تو میں ان سے اپنی شفاعت کرنے کی درخواست کرتا۔ (لیکن کیونکہ محمد و آل محمد سے زیادہ کوئی تیری بارگاہ میں مقرب نہیں، اس لئے میں انہیں کو اپنا شفیع بتاتا ہوں)۔ اے خدا! تجھے انہیں کے حق کا واسطہ دیتا ہوں جسے تو نے ان کے لئے اپنے اور خود واجب کیا ہے، اسی حق کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے جوان حضرات کی معرفت رکھنے والے ہیں (یعنی جوان کی عظمت کو بچانے والے ہیں) اور جوان کے حق کو بچانتے ہیں اور ان کی شفاعت کی وجہ سے رحم کئے جانے والے ہیں۔ حقیقتاً توبہ رحم کرنے والوں سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور خاص الخاص رحمتیں نازل فرمائیں اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد پر اور ان پر کثرت سے درود و سلام نازل فرم۔

بے شک اللہ ہمارے لئے بہت کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین سرپرست ہے۔

(دعا فرمائیں انشا اللہ قبول ہو گی)

باقی زیاراتِ بقیع

(ازواج رسول) امہات المومنین

۹ ازواج کی قبریں ایک ساتھ ہیں۔

(۱) حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت میمونہ کی قبریں۔

(۲) حضرت عبد اللہ ابن جعفر طیار اور حضرت عقبیل کی دو قبریں ایک ساتھ ایک چہار دیواری میں ہیں۔

(۳) حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ کی قبر ہے۔

(۴) اس کے بعد شدائے احمد کی قبریں ہیں۔

(۵) بڑے چھانک کے بائیں طرف دیوار کے پاس حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اور حضرت ام البنین والدة حضرت ابو الفضل العباس کی قبریں ہیں۔

(۶) اس کے علاوہ حضرت عبد اللہ ابن مظعون اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود کی قبریں ہیں۔

(۷) اگر بیرونی دیوار کے بائیں طرف کنارے کنارے جائیں تو آخر میں تھوڑی سی بلندی پر تین قبریں ہیں (۱) حضرت ابوسعید خذری صحابی رسول (۲) حضرت فاطمہ بنت اسد مادر حضرت علی کی قبریں۔ بقیع کے

باہر حضرت امام علیؑ فرزندِ حضرت امام جعفر صادقؑ کی قبر ہے۔

گھٹ سے داخل ہوتے ہی داہنی طرف بلندی پر ائمہ ایلپیٹ کی قبور ہیں۔ یہی سب سے افضل مقام ہے۔ یہاں حضرت امام حسن، حضرت امام ذین العابدین، حضرت امام محمد باقرؑ، حضرت امام جعفر صادقؑ کی قبریں بھی ہیں اور حضرت عباسؓ ان عبد المطلبؓ کی قبر بھی ہے اور حضرت فاطمہ زہراؓ یا حضرت فاطمہؓ بنت اسدؓ کی قبر بھی اسی احاطہ میں بتائی جاتی ہے۔

مددینہ کی مساجد

مسجدِ مبارکہ، مسجدِ غمامہ، مسجدِ بلاال، مسجدِ حضرت فاطمہؓ اور مسجدِ علیؓ۔

دیگر زیارات در مکہ

جنتِ معلیٰ (شعبِ اہل طالب) میں

ام المؤمنین حضرت خدمجہ

کی زیارت اس طرح پڑھیں۔

سلام ہو آپ پر اے رسولِ خدا سید المرسلین کی زوجہ۔ سلام ہو آپ پر اے نبی خدا
 خاتم النبین کی شریکِ حیات۔ سلام ہو آپ پر اے حضرت فاطمہ زہرا
 کی والدہ ماجدہ۔ سلام ہو آپ پر اے امام حسن اور امام حسین جو جنت کے
 تمام جوانوں کے سردار ہیں، ان کی جد و ماجدہ۔ سلام ہو آپ پر اے تمام
 ائمہ طاہرین کی جد و ماجدہ۔ سلام ہو آپ پر اے مومن مردوں اور مومن
 عورتوں کی مادر گرامی۔ سلام ہو آپ پر اے مخلص عورتوں کی سردار۔ اے
 حرم اور بیٹھا کی ملکہ۔ سلام ہو آپ پر اے وہ بیٹی جس نے عورتوں میں
 سب سے پہلے جنابِ رسولِ خدا کی رسالت کی تصدیق فرمائی۔ سلام ہو آپ
 پر جس نے خدا کی بندگی کا حق ادا کیا اور اپنی جان اور اپنے سارے مال کو تمام
 انبیاء کے سردار جناب رسالت مبارک پر خرچ کر دیا۔ سلام ہو آپ پر اے حبیبِ خدا
 کی شریکِ حیات۔ اے خلاصہ اصفیاء کی زوجہ! اے ابراہیم خلیل اللہ کی
 بیشی! سلام ہو آپ پر اے دینِ خدا کی محافظ۔ اے جنابِ رسولِ خدا کی مدد
 کرنے والی۔ اے وہ جس کو خود جنابِ رسولِ خدا نے دفن کیا۔ آپ پر اللہ کی

خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔

حضرت قاسم ابن رسول اللہ کی زیارت

(حضرت خدجہ کی قبر کے ساتھ ہی حضرت قاسم ابن رسول اللہ کی قبر ہے۔ ان کو اس طرح سلام پیش کریں۔)

سلام ہو آپ پر اے ہمارے سردار قاسم ابن رسول اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے نبی خدا کے بیٹے۔ سلام ہو آپ پر اے جبیب خدا کے بیٹے۔ سلام ہو آپ پر اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے۔ سلام ہو آپ پر اور ان سب مونین و مومنات پر جو آپ کے ارد گرد دفن ہیں۔ خدا آپ سب لوگوں سے راضی ہو اور آپ لوگوں کو بہترین طریقے سے راضی کرے۔ اور آپ لوگوں کا شہکانہ جنت کو قرار دے۔

حضرت آمنہ مادر رسول اللہ کی زیارت

(آپ کی قبر کے بارے میں دو (۲) روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ مکہ میں جنت المعلی میں دفن ہیں اور دوسری روایت کے مطابق آپ مکہ مدینے کے درمیان دفن ہیں۔)

سلام ہو آپ پر اے پاک و پاکیزہ ملی ملی۔ سلام ہو آپ پر اے طاہرہ مطہرہ اور

ایسی ملی جس پر فخر کیا جاسکتا ہے۔ اے وہ ملی جس کو خدا نے اعلیٰ سے
اعلیٰ شرف عطا فرمایا۔ سلام ہو آپ پر اے ملی جو عظیم بزرگوں کی
فضیلتوں کی وارث ہیں۔ سلام ہو آپ پر جن کی پیشائی پر تمام انبیاء کرام
کے سردار کا نور چکا اور اس نور کی روشنی سے زمین اور آسمان روشن ہو گئے۔
سلام ہو آپ پر جن کے لئے پاک فرشتے اترے اور جن کے لئے جنت کے
پردے لگائے گئے (یعنی جن کے لئے جنت کو مزید سجا�ا ہنا گیا) جیسے کہ
جناب مرسم کے لئے جنت کو سجا�ا گیا تھا۔ اے جناب رسولِ خدا کی مادرِ
گرامی! اے جبیبِ خدا کی مادرِ گرامی، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ یقیناً آپ تمام
انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ کے نور کو اٹھانے والی تھیں۔ آپ اشرف
موجودات کو دنیا میں لے کر آئیں۔ آپ پر خدا کی خاص الناص رحمتیں اور
برکتیں نازل ہوں۔

حضرت ابو طالبؑ کی زیارت

(جنتِ معلیٰ مکہ)

سلام ہو آپ پر اے بطباء (مکہ) کے سردار اور رئیس کے فرزند۔ سلام ہو
آپ پر اے کعبہ کے بننے کے بعد اس کے وارث۔ سلام ہو آپ پر اے
جنابِ رسولِ خدا کی کفالت اور حفاظت کرنے والے۔ سلام ہو آپ پر اے

دنی خدا کے محافظ۔ سلام ہو آپ پر اے محمد مصطفیٰ کے چچا۔ سلام ہو آپ پر اے ہدایت کے اماموں کے جدِ امجد۔ سلام ہو آپ پر اے وہ ہستی جسے تمام مخلوقات سے بہترین پیٹا عطا ہوا، جو تمام اماموں کا امام ہے اور تمام ائمہ کا باپ ہے۔ جو جنت اور جننم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اور نیک لوگوں کے لئے خدا کی عظیم الشان نعمت ہے اور بد کاروں کے لئے خدا کا قبر ہے۔ آپ پر اور ان پر ہمار اسلام ہو اور اللہ کی خاص الخاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔

حضرت عبد منافؑ، جدِ رسول اللہ کی زیارت (جنتِ معالیٰ مکہ)

سلام ہو آپ پر اے معزز سردار جن کو خدا نے بزرگی اور عظمت عطا فرمائی۔ سلام ہو آپ پر اے افضلِ مخلوق (محمد مصطفیٰ) کے جد بزرگوار۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے پنے ہوئے انبیاء کرام کے فرزند۔ سلام ہو آپ پر اے اولیاءِ خدا اور اوصیاء و انبیاء کے فرزند۔ سلام ہو آپ پر اے حرمِ مکہ کے سردار۔ سلام ہو آپ پر اے صفا و مروہ اور زمزم کے مالک۔ سلام ہو آپ پر اے مقامِ ابراہیم کے وارث۔ سلام ہو آپ پر اے خدا کے عظیم گھر کے محافظ اور وارث۔ سلام ہو آپ پر اے شریف ترین بزرگوں کی نشانی۔ سلام ہو آپ پر اے بلند اور اعلیٰ اوصاف کے مالک۔

سلام ہو آپ پر اے قریش کے سردار جو عبید مناف کے نام سے مشہور ہیں۔ سلام ہو آپ پر اور آپ کے آبا و اجد او پر جو کائنات میں اللہ کے امین تھے۔ آپ پر سلام ہو اور خدا کی خاص الخاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔

حضرت عبد المطلبؑ، جدِ رسول خدا کی زیارت (درجت معلیٰ۔ مکہ)

سلام ہو آپ پر اے کعبہ اور بظحا (مکہ) کے سردار۔ سلام ہو آپ پر اے شان و شوکت اور حسن و جمال والے۔ سلام ہو آپ پر اے سخاوت کا سر چشمہ اور عزت و بزرگی کی شان۔ سلام ہو آپ پر جو سب سے پہلے بداء کے عقیدے کے قائل ہوئے۔ سلام ہو آپ پر جو علاماتِ انجیاء کے ساتھ محسور ہوں گے۔ سلام ہو آپ پر جوز میں و آسمان میں مشہور ہیں۔ سلام ہو آپ پر جسے باتفاقِ غیبی نے نہایت اچھی آواز سے پکارا۔ سلام ہو آپ پر اے خلیل خدا حضرت ابراہیمؑ کے فرزند۔ سلام ہو آپ پر اے اسماعیلؑ ذبح اللہ کے وارث۔ سلام ہو آپ پر جن کی دعا کے سبب خدا نے اصحابِ فیل کو ہلاک کیا۔ اور ان کی تمام مکاریوں کو ناکام کیا۔ اور خدا نے ابانتیل کے جھنڈ کے جھنڈ ان پر بھیجے۔ سلام ہو آپ پر اے حاجیوں کو سیراب کرنے والے۔ سلام ہو آپ پر اے زمزم کے کنوں کو دوبارہ کھود کر نکالنے والے۔ سلام ہو آپ پر اے کعبہ کے گرد سب سے

پہلے سات (۷) مرتبہ طواف کرنے والے۔ سلام ہو آپ پر اے خدا
کے نور، اے حضرت ہاشم کے فرزند۔ آپ پر خدا کی خاص الخاص رحمتیں
اور برکتیں نازل ہوں۔

مکہٰ معظمه کے سنت اعمال

- ۱۔ تمام فرض نمازیں حرم مکہ میں پڑھیں۔ کیونکہ حدیث کے مطابق
حرم مکہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔
- ۲۔ زیادہ سے زیادہ کعبہ کا طواف کریں۔ کیونکہ جتنا مدینہ کی مسجد نبوی میں
نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے اتنی ہی مکہ کے حرم میں طواف کرنے کی
تاکید کی گئی ہے۔
- ۳۔ پورا قرآن سمجھ کر پڑھے اس لئے کہ روایت ہے کہ جو شخص مکہ
معظمه میں قرآن ختم کرے گا، وہ نہیں مرے گا جب تک جناب رسول خدا
کی زیارت نہ کر لے اور جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔
- ۴۔ جناب رسول خدا کی ولادت گاہ کی زیارت کریں۔
- ۵۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مقام کی زیارت کریں۔
- ۶۔ مسجد بلاں میں دو (۲) رکعت نماز پڑھیں۔
- ۷۔ جناب فاطمہ زہریٰ کی ولادت گاہ کی زیارت کریں۔
- ۸۔ کوہ ابو قبیس کی زیارت کریں۔
- ۹۔ جب تک منی میں رہیں سنت اور فرض نمازیں مسجد خیف میں ادا
کریں۔ سہاں ایک رکعت کا ثواب سو (۱۰۰) رکعت پڑھنے کے برابر ہے۔

زیارت امین اللہ

(یہ زیارت ہر امام کے لئے پڑھی جاسکتی ہے)

حضرت امام محمد باقرؑ سے حضرت جابرؓ ان عباد اللہ انصاریؓ نے روایت فرمائی ہے کہ جب حضرت امام زین العابدینؑ حضرت امیر المؤمنینؑ کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو آپؑ نے حضرت امیرؑ کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر یہ زیارت پڑھی۔

(یہ زیارت ہر امام کے لئے پڑھی جاسکتی ہے۔)

سلام ہو آپؑ پر اے وہ جو اللہ کی زمین پر خدا کا امین ہے۔ اور خدا کے ہندوں پر خدا کی محنت اور دلیل ہے۔ سلام ہو آپؑ پر اے مومنین کے امیر (امیر المؤمنینؑ) میں گواہی دیتا ہوں کہ آپؑ نے خدا کی راہ میں ایسا جہاد کیا جو حق ہے جہاد کرنے کا۔ خدا کی کتاب پر عمل فرمایا، خدا کے رسولؐ کی سنت کی (مکمل) پیروی فرمائی۔ یہاں تک کہ خدا نے آپؑ کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا۔ اور آپؑ کی روح کو خدا نے اپنے اختیار سے قبض فرمایا۔ اور آپؑ کے دشمنوں پر (آپؑ کے ذریعہ) اپنی محنت کو پورا کیا۔ اس لئے کہ آپؑ اللہ کی تمام مخلوقات پر خدا کی محنت بالغہ (مکمل محنت اور دلیل) ہیں۔ اے اللہ میرے نفس کو اپنی قضا و قدر کے حقیقی فیصلوں پر مطمئن کر

دے۔ مجھے اپنی لکھی ہوئی تقدیر اور قضا و قدر کے فیصلوں پر راضی رکھ۔
 مجھے اپنی یاد اور دعا کرنے کا بے حد شوق ہنا دے۔ مجھے اپنے دوستوں سے
 محبت کرنے والا ہنا دے۔ مجھے اپنی زمین اور آسمان میں اپنا محبوب ہنا دے۔
 بلااؤں اور مصیبتوں کے آنے پر صبر کرنے والا ہنا دے۔ اپنی بے انتہا نعمتوں
 پر شکر ادا کرنے والا ہنا دے۔ اپنی بے شمار عطاوں کا یاد کرنے والا ہنا دے۔
 تیرے بد لے دینے کے دن کے لئے برائیوں سے پچنے اور فرائضِ الہی کے
 ادا کرنے کا سامان جمع کرنے والا ہنا دے۔ اپنے دوستوں کے طریقے کار اور
 طریقہ زندگی کا پیروی کرنے والا ہنا دے۔ اپنے دشمنوں کی بد اخلاقیوں اور
 بد معاشیوں سے دور اور محفوظ رہنے والا ہنا دے۔ اور مجھے دنیا میں اپنی
 حمد و شناسی میں مشغول رہنے والا ہنا دے۔

(پھر اپنے چہرہ کو ضریحِ اقدس پر رکھ کر یہ دعا کریں)

اے اللہ! اطاعت کرنے والوں اور تجھ سے لوگانے والوں کے دل تیری
 معرفت کے بارے میں حیران و پریشان ہیں۔ تیری طرف رغبت رکھنے
 والوں کے لئے تیرے راستے تیری جانب کھلے ہوئے ہیں۔ تیری طرف
 قصد کرنے والوں کے لئے تیرے نشانات واضح ہیں۔ تجھے پہچانے والوں
 کے دل تیرے غضب کے خوف سے لرز رہے ہیں۔ تجھ سے دعائیں
 والوں کی آوازیں بلند ہیں۔ تیری اجامت کے دروازے ان کے لئے کھلے
 ہوئے ہیں۔ جو تجھ سے دل لگا کر چپکے چپکے دعا کرے اس کی دعائیں قبول ہو رہی

ہیں تجھے ہے لوگا کر گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہو رہی ہے۔ جو تیرے خوف سے رورہا ہے۔ اس پر تیری رحمتیں برس رہی ہیں۔ جو تجھے سے فریاد کر رہا ہے اس کی فریادوں کو تیری مدد پہنچ رہی ہے۔ جو تجھے سے مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں، ان کے لئے تیری مدد خرچ ہو رہی ہے۔ تیرے بندوں کے لئے تیرے وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ کسی کی خطائیں جو تیرے نزدیک گناہ ہیں، معاف کی جا رہی ہیں، عمل کرنے والوں کے اعمال محفوظ کئے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے لئے رزق تیرے پاس سے نازل ہو رہا ہے۔ اور ان کی ضرورت سے بھی کہیں زیادہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ معافی مانگنے والوں کے گناہ معاف کئے جا رہے ہیں۔ تیری بارگاہ میں تیری مخلوق کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں۔ سوال کرنے والوں کے لئے تیرے پاس عطا ہیں اور بخشش بے حد و بے حساب ہیں۔ اور متواتر و مسلسل ہیں۔ کھانے والوں کے لئے تیرا دستر خوان کھلا ہوا تیار ہے۔ پیاسوں کے لئے تیرے چشمے بھرے ہوئے ہیں اور بہرہ رہے ہیں۔ اے اللہ! میری دعاویں کو بھی سن لے، میری تعریفوں کو بھی قبول کر لے، مجھے میرے دوستوں سے ملا دے، تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کے حق کا۔ حقیقتاً تو ہی میری نعمتوں کا اصل مالک ہے، میری امیدوں کی حد آخر ہے، اور میرے اصل ٹھکانے کی طرف مجھے واپس لوٹانے والا اور پہنچانے والا ہے۔

(کامل الزیارتہ میں یہ جملے بھی لکھے ہیں)

(اے اللہ) تو ہی میرا خدا ہے، میرا سردار اور آقا ہے، میرے تمام دوستوں کو بخش دے۔ مجھ سے میرے دشمنوں کو دور کر دے، میرے دشمنوں کو (اور کاموں میں اس طرح) مشغول کر دے کہ وہ مجھے تکلیف پہنچانے سے رک جائیں۔ کلمہ حق کو ظاہر کر دے اور اس کو بلند کر۔ کلمہ باطل کو دبادے اور اسے نیچا دکھا دے۔ حقیقتاً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

(زیارتِ جامعہ ختم ہوئی)

حج کا فلسفہ اور مقصد

(۱)۔ حج کے معنی 'ارادہ کرنے' کے ہیں۔ اصطلاح میں مکہ کا ارادہ کرنا ہوتا ہے جو حج کے لئے ہو۔ اس طرح ہمیں یہ تربیت دینا مقصود ہے کہ ہم اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کئے رہیں۔ جو ہماری اصل منزل ہے۔ خدا نے فرمایا:

الٰٰ رَبِّ الْمُنْتَهٰٰ (القرآن)

تیری انتاتیرے پالنے والے مالک کی طرف ہے

گویا حج مقصد زندگی اور ہدف حیات کی طرف متوجہ کرنے کا ایک عملی طریقہ کار ہے۔ ہمیں ہماری منزل کی یاد دہانی ہے۔ مگر یہ خدا کی طرف لوٹنا اپنے ارادہ سے ہوتا ہے جب کہ خدا کی طرف ہماری واپسی موت کی شکل میں عموماً غیر اختیاری ہوتی ہے۔

(۲)۔ اس لئے حج کا ارادہ کرنا اپنے ذہن کو موت کے لئے آمادہ کرنا ہے۔

اس طرح ذکر موت کے تمام فوائد و مقاصد اس میں از خود داخل ہیں۔

حضور اکرم نے فرمایا ہے کہ "موت (کی یاد) تمہاری نصیحت کے لئے کافی ہے"۔ کیونکہ یہ اصلاح حال کا بہترین اور مسحور ترین طریقہ کار ہے۔

غرض حج ایک ابدی سفر کی تربیت ہے جو سفر اللہ کی طرف ہو اور اس راستے سے گزرے جو حضرت ابراہیم اور حضرت محمد مصطفیٰ کا راستہ تھا۔

(۳)۔۔ حج کا تیرا مقصد اور فائدہ ہر معاٹے میں خدا کی طرف رجوع کے رہنے کی تربیت ہے۔

(۴)۔۔ 'شعائرِ الہی'، یعنی خدا اور خدا والوں کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کی تربیت ہے۔ کیونکہ شعائرِ الہی کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے۔ خدا نے کعبہ کو اپنا گھر قرار دے کر اس کو اپنی ایک نشانی قرار دیا۔ اب بیت اللہ کی تعظیم خدا کی تعظیم ہو گئی۔ جس طرح اگر آپ کسی کے گھر کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ اصل میں گھروالے کی تعظیم ہوتی ہے۔

(۵)۔۔ حج کا ایک اور اہم مقصد مسلمانوں کو ایک نقطہ پر جمع کرنا ہے تاکہ ان کی جمیعت اور تعداد کا اظہار ہو جو اسلام کی شان و شوکت و کھانے کے مترادف ہے اور اس طرح مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے سے متحد ہونے کا احساس بیدار کرنا مقصود ہے اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا مقصود ہے اس طرح حج اصل میں دین کی عزت کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

وَذَ جَعْلَنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَامْنًا

یعنی، کعبہ کو ہم نے انسانیت کا ٹھکانہ قرار دیا ہے
اور یہ ان کے امن کی جگہ ہے۔ (القرآن)

(۶)۔۔ حج کا چھٹا مقصد حضرت ابراہیم سے واسیگی کو مستحکم کرنا اور ان کے

ساتھ موافق ت کرنا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم ساہبین میں پیغامِ توحید کے سب سے بڑے علمدار تھے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰؐ کو بھی خدا نے حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی لئے حضور اکرمؐ نے فرمایا۔

”اپنے مشاعر پر شرودتاکہ تم اپنے باب ابراہیم کے ورثے میں سے ورشپاؤ۔“
یعنی حضرت ابراہیم کے پیغامِ توحید سے استفادہ حاصل کر سکو اور ان کے طریقے ہائے زندگی کو اپنا سکو۔ غرض حج کا ایک مقصد حضرت ابراہیم کے پیغام اور ان کے طرز فکر و عمل کی حفاظت ہے۔

(۷)۔۔۔ حج ایک عظیم مقصد ملتِ مسلمہ کے اتحادِ عمل کا اظہار ہے کیونکہ سارے مسلمان فقہاء کے مسائلِ حج تقریباً یکساں ہیں اور بہت معمولی ساقر ہے۔ اس لئے تمام مسلمان عرفات میں قیام کرتے ہیں۔ منی میں ایک ساتھ اترتے ہیں۔ مزدلفہ میں ایک رات ساتھ قیام کرتے ہیں۔ سب کے سب منی میں قربانی دیتے ہیں۔ سب تین شیطانوں پر پتھراو کرتے ہیں۔ سب طواف کرتے ہیں۔ مقامِ ابراہیم پر دور کعت نماز ادا کرتے ہیں۔ سب سعی کرتے ہیں اور تقصیر کرتے ہیں۔ اس طرح سب کا ایک ہی عمل ایک ساتھ انجام دینا ان میں یہ احساس کو ییدار کرتا ہے کہ ہم سب ایک ملت ہیں اور ایک بزرگ ابراہیم کے نقشِ قدم پر چلنے والے، حضور اکرمؐ اور ان کے اہلِ بیت کرامؐ کے ماننے والے ہیں۔ ہم سب

ملتِ ابراہیم اور ملتِ محمدیٰ کے ارکان ہیں۔

(۸)۔۔ حج کا ایک مقصد حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل اور گذشتہ بے شمار انبیاء پر جو خدا نے انعام فرمایا ان کا شکردا کرنا ہے۔ جیسے کعبہ کا طواف کعبہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے اور مقامِ ابراہیم پر نماز ابراہیم کا شکریہ ادا کرنا ہے اور ان پر خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور صفا و مردہ کے درمیان سعی حضرت حاجرة پر خدا کی رحمت کی یاد تازہ کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے اور منی میں قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے جذبہ قربانی کو یاد کرنا اور ان پر خدا کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا ہے۔

(۹)۔۔ حج کا ایک عظیم مقصد اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر دل سے شرمندہ ہونا اور خدا سے ان کی اس طرح معافی طلب کرنا ہے جس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا نے عرفات میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کی تھی اور خدا نے وہ توبہ قبول فرمائی۔ اس لئے حضورِ اکرم نے فرمایا کہ ”خدار و ز عرفہ سے زیادہ کسی دن گناہگاروں کو معاف نہیں فرمایا۔“ سب سے زیادہ عرفات کے قیام کے دن خدا گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے اس لئے کہ عرفات وہ مقام ہے، جہاں حضرت آدم اور حوا کی توبہ خدا نے قبول فرمائی تھی۔

اس طرح حج میں عرفات میں قیام اور توبہ کرنا حضرت آدم کا ورش پانے

کے مترادف ہے۔

(۱۰) — حج کا ایک عظیم مقصد خود کو ذکرِ خدا کی طرف مائل کرنا ہے۔ جاہل عرب حج کے موقع پر اپنے باپ داؤ کی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ اسی لئے خدا نے فرمایا۔

”خدا کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ داؤ کو یاد کرتے ہو۔
بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کیا کرو۔“

خدا کی یاد سے مراد خدا کی عظمت اور نعمت کو یاد کرنا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو خدا سے آشنا اور مانوس کرتی ہے کیونکہ جب انسان خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا بھی ہندے کو یاد کرتا ہے۔ بقول ڈاکٹر اقبال

یہ دنیا سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
عجب چیز ہے لذت آشنائی
(۱۱) — حج کا ایک مقصد کاروبار کی عظمت کو بتانا ہے۔ جاہل عرب کاروبار کو خالص دینیوی عمل سمجھتے تھے اس لئے حج کے دوران اس کو حرام سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں تجارت کرنے سے عمل میں خلوص نہیں رہتا۔ اس لئے خدا نے فرمایا۔

”اس میں کچھ مضافات نہیں کہ تم (دوران حج) اپنے مالک کا فضل و کرم
تلائش کرو (یعنی) تجارت کرو۔“ (القرآن)

اس طرح ہمیں بتایا گیا کہ کاروبار کرنا عبادت کی ضد نہیں بلکہ عین عبادت

ہے۔ پھر طیکہ خدا کے احکامات کے دائرے میں رہ کر کی جائے۔
دبور جاہلیت کے عرب اس بات کو بہت اچھا سمجھتے تھے کہ بغیر سفر خرچ کے
سفر کریں اور پھر خود کو خدا پر متوكل سمجھتے تھے اور لوگوں سے بھیک مانگتے
تھے۔ اس پر یہ آیت اتری۔

’فتر و دوافان خیر الزاد التقوی‘

اور زاد راہ لے لو۔ البتہ بہترین زاد سفر تقویٰ ہے۔ (القرآن)

یعنی خدا کی نار انگی سے ڈرنا، پھنا اور فرائضِ الحی کا ادا کرنا اصل زاد سفر ہے۔
(۱۲) حج کا ایک اور بڑا مقصد خدا کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے کی مشق اور قوت
پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ حج کا سفر اور مناسک سب تکلیف دہ ہوتے ہیں اس
لئے حج کرنے سے جذبہ جماد اور خدا کی راہ میں صعوبتیں برداشت کرنے کا
جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اس لئے جب آنحضرتؐ سے پوچھا گیا کہ سب اعمال
میں سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے، تو آپؐ نے فرمایا ’خدا اور رسول کو دل
سے مانا‘۔ پوچھا گیا اس کے بعد سارے اعمال میں کون سا عمل سب سے
بہتر ہے، فرمایا ’خدا کی راہ میں جماد کرنا یعنی بھر پور کوششیں کرنا،
زمتیں اٹھانا‘۔ پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ترین ہے،
فرمایا ’حج مبرور‘۔

اس سے ثابت ہوا کہ ایمان کے بعد جماد اور جماد کے بعد حج مبرور کے برادر
کوئی عمل نہیں۔ کیونکہ حج بھی اصل میں جماد ہے اور برائیوں

سے رکنا سب سے بڑا جماد ہے۔ اسی لئے حضور اکرم نے فرمایا۔
 ”جو شخص حج کرے اور اس کے دوران لغو، بے ہودہ، گندی اور نخش با تین نہ
 کرے، فتن و فجور یعنی برے کام نہ کرے تو وہ اس دن جیسا ہو جاتا ہے جس
 دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ (الحدیث)

کیونکہ حج کے ذریعہ وہ اپنے اندر برا یوں سے چنے کی تربیت پیدا کر لیتا ہے
 اور یہ اصلاح کے لئے اس کی آمادگی خدا کی رحمت کو جوش میں لاتی ہے اور
 اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔

(۱۳)۔ پھر حج کے موقع پر دعا کرنے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ اس
 طرح حج کا ایک مقصد خدا کی رحمت کو طلب کرنا اور اس کے ثواب کی تمنا
 پیدا رکھنا ہے۔ کیونکہ حج کے زمانے میں خدا کے انوار کا پر توبہ کی شدت
 سے حاجیوں پر پڑتا ہے اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس لئے دعائیں قبول
 ہوتی ہیں اور حاجیوں کو خدا کی رحمت سے وافر حصہ نصیب ہوتا ہے۔

عرفات میں قیام کرنے کا راز ہی یہ ہے کہ ایک وقت اور ایک ہی جگہ میں
 مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع خدا کی رحمت کا سوالی بن کر خدا کی طرف راغب
 ہوتا ہے اور خضوع و خشوع کے ساتھ خدا سے سوال کرے گا تو خدا کی
 رحمتیں، برکتیں اور توفیقات ضرور ناہل ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان
 عرفات کے دن سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے پھر اس اجتماع میں
 مسلمانوں کی شان و شوکت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اجتماعی دعا کرنے کی

تربيت بھي ملتی ہے۔

(۱۴)۔ حج کا ایک مقصد خدا کے حکم پر لبیک کرنے کی عملی تربیت ہوتا ہے۔ تاکہ ہم زندگی بھر خدا کے احکامات پر لبیک کرنا اپنے لئے سب سے بڑا فخر سمجھیں اور اس طرح اپنی بندگی کے جو ہر کو قوی سے قوی تر ہتے چلے جائیں جو انسان کی اصل معراج ہے۔ اسی لئے حضور اکرمؐ سے پوچھا گیا کہ کون سانچ بہترین ہوتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا ”جس میں با آواز بلند تلبیہ اور عکسیر کی جائے،“ (یعنی لبیک۔ لبیک۔ میں حاضر خدمت ہوں۔ میں حاضر خدمت ہوں)۔ زور زور سے خلوصِ دل سے کہا جائے۔ اس طرح حاجی حکمہٰ حق کا اعلان بھی کرتا ہے اور اپنے اندر یہ جوش اور جذبہ بھی پیدا کرتا ہے کہ وہ خدا کے پیغام کو با آواز بلند دوسروں تک پہنچا سکے۔ اور اپنی بندگی کا اظہار اس طرح بھی کر سکے۔

(۱۵)۔ حج کا ایک مقصد اپنے دل و دماغ میں خدا کی عظمت اور برتری کے سامنے ذلت اور کمتری کے احساس کو پیدا کرنا ہوتا ہے جو بندگی کا اصل جو ہر ہے۔ بقول میر انس۔

عزت جسے دیتا ہے خدا دیتا ہے
وہ دل میں فروتنی کو جاویتا ہے
کیونکہ حج کے زمانے میں احرام یعنی فقیرانہ لباس پہنا جاتا ہے۔ ہر قسم کی زینت اور خوشبوؤں کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ خیموں میں رہنا اور خاک پر

اٹھنا، بیٹھنا ہوتا ہے۔ اس طرح سالک اپنے اندر ترکِ زینت اور ادنیٰ ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے گویا خدا کی عظمت کا احساس بیدار کر کے خدا کی عظمت کا خوف اور تعظیم پیدا کرنا ہوتا ہے جو تمام نیکیوں کی اصل ہے۔

(۱۶)۔ اور اس طرح وہ اپنے نفس کو اپنی خواہشوں کے پورا کرنے میں مطلق العنان بننے سے روک دیتا ہے پھر نفس ہمارے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتا بلکہ ہم اور ہماری عقل اور ہماری قوت فیصلہ ہماری خواہشات پر حکمرانی کرتی ہے۔ کیونکہ رمضان کا مقصد بھی یہی ہے شاید اسی لئے حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ۔

”رمضان کا عمرہ حج کے برابر (ثواب رکھتا) ہے۔“ (الحدیث)

کیونکہ روزہ کا مقصد بھی برایوں سے اجتناب کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور حج میں یہی مقصد پورا کیا جاتا ہے۔ اور کیونکہ جماع کرنا فی الحقيقة حیوانی خواہش میں منہمک ہونا ہے اس لئے احرام کی حالت میں اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس لئے حضور اکرمؐ نے فرمایا۔

”محرم نہ تو نکاح کرے اور نہ نکاح کرائے۔

اور نہ نکاح کی بات چیت کرے۔“ (الحدیث)

(۱۷)۔ حج کا ایک اور بڑا مقصد انسانوں کی خدمت کے جذبہ کو بیدار کرنا ہے۔ اس لئے حج کے دنوں کی ایک بڑی عبادت ہم سفروں کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی خدمت کرنا ہے۔ حضرت امام ذین العابدینؑ کے حالات

میں لکھا ہے کہ آپ حج کا سفر ان قافلوں کے ساتھ کرتے تھے جس میں لوگ ان کو بیچان نہ سکتے تھے تاکہ ان کی خدمت کر سکیں۔ ورنہ جانے والے لوگ فرزیدِ رسول سے خدمت لینے پر ہرگز آمادہ نہیں ہوتے تھے۔
ڈاکٹر محمد اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ۔

خدا کے ہندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے
میں اس کا ہندہ بنوں گا جس کو خدا کے ہندوں سے پیار ہو گا
(۱۸)۔۔۔ حج کے دورانِ رسمی جمرات یعنی تمیں شیطانوں کو پتھر مارنے کا مقصد طاغوتی طاقتوں کے خلاف اعلانِ جماد کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جو مسلمانوں کی اصل طاقت ہے۔ مسلمان ہر اس طاقت کے خلاف ہوتا ہے جو خدا کے حکم سے روکنے والی ہو۔ بقول ڈاکٹر محمد اقبال۔

مومن تو فقط حم الی کا ہے پاہند
تقدیر کے پاہند نبادات و جمادات
خدا کی اطاعت میں ہمیشہ شیطانی طاقتیں حائل ہوتی ہیں۔ ان سے تمرا یعنی علیحدگی کا اعلان کئے بغیر کوئی انسان خدا کا پرستار نہیں ہو سکتا۔ اس لئے الا اللہ سے پہلے لا الہ پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی خدا کو ماننے سے پہلے غیر خدا سے برات اور علیحدگی ضروری ہے۔ یہ ہرگز ہرگز ممکن نہیں کہ خدا کو مانتے رہیں اور خدا مخالف طاقتوں کو بھی تسلیم کرتے رہیں۔ بقول شاعر:
رند کے رندر ہے ہاتھ سے جنت نہ گئی

ان دو ضدوں کا اجتماع ہرگز ممکن نہیں۔ مشرق و مغرب ایک ہو سکتے ہیں
مگر خدا پر ایمان اور طاغوتی طاقتوں کے ساتھ موافق ایک نہیں ہو سکتی۔
رمیٰ جمرات یعنی تین شیطانوں کو مارنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل
کی سنت ہے اور یہ عمل ان کی سنت کو تازہ کرنے کے مترادف ہے۔

(۱۹) طواف کا عمل محبت کا انتہائی عمل ہے اور عجز و انکساری کا اعلیٰ ترین اظہار ہے۔ محبت میں روپانہ شمع کے گرد بے اختیار گھونٹنے لگتا ہے طواف
محبتِ الٰہی اور احترامِ الٰہی کے جذبے کو بیدار کرتا ہے۔ کیونکہ کسی کے چاروں طرف طواف کرنا محبت کی بے اختیاری کا اظہار ہے۔ بقول غالب۔

بار بار اس کے در پر جاتا ہوں
حالت اب اضطراب کی سی ہے
اور اس میں بلا کی عاجزی اور انکساری بھی ہے۔ اس لئے حدیث میں آتا ہے۔
جب فرشتوں نے حضرت آدمؑ کی عظمت کو پہچان لیا اور وہ امتحان میں
کامیاب نہ ہوئے تو ان کو احساس ہوا کہ ہم نے خدا کی بارگاہ میں جسارت
کی۔ ہمیں خدا کی بارگاہ میں ہرگز یہ نہ کہنا چاہیے تھا کہ۔ 'تو آدمؑ (کی اولاد)
زمیں پر آباد کر رہا ہے جو اس میں فساد کرے گی اور خون خرالہ کرے گی'۔

بھلاہندوں کو آقا کے کاموں پر اعتراض کرنے سے کیا کام۔ بعد گی کا تقاضہ
تو صرف اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ اس شرمندگی کے احساس کی وجہ سے تمام
ملائکہ بیت المغور پر آکر بے ساختہ خانہ خدا کا طواف کرنے لگے اور خدا

سے معافی مانگنے لگے۔ خدا کو ملائکہ کی یہ ادابہست پسند آئی اور اس نے ملائکہ کو معاف کر دیا اور حضرت آدم کو حکم دیا کہ تم بیت المعور کے نیچے ایک میراً گھر زمین پر ہنا تو تاکہ جو بندہ گناہگار ملائکہ کی طرح اپنے گناہوں پر شرمند ہو کر آئے گا اور طواف کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔

نیز یہ طواف بیت اللہ کی تعظیم ہے اور بیت اللہ کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے۔
(۲۰)۔۔۔ اور سعی کرنے کا فلفہ یہ ہے کہ ہم خدا کی اس نعمت کو یاد کریں جو مادر اسما علیہ پر ہوتی۔ جب وہ بے چینی کے عالم میں اپنے بیٹے اسما علیہ کے لئے پانی کی تلاش کر رہی تھیں اور پانی نہ مل رہا تھا تو خدا نے حضرت اسما علیہ کے بیرونی کے نیچے سے زمزم جاری کر دیا۔ سعی کے ذریعے بھی سعی و عمل کی تربیت دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ خدا انہیں کی مراد پوری کرتا ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ کوشش ہماری ہوتی ہے اور پورا خدا کرتا ہے مگر کوشش کرنا ضروری ہوتا ہے۔

(۲۱)۔۔۔ نیز سعی کے ذریعے ماں کی خدمت کی عظمت کا اظہار بھی ہے کہ ماں کی خدمت خدا کی نگاہ میں کتنی عظمت رکھتی ہے۔ کیونکہ ملی طی ہاجرة نے خدا کی راہ میں خدا کا گھر آباد کرنے کے لئے اپنے پیاسے پچ کے لئے سعی فرمائی تھی اس لئے یہ سعی حج کار کن بن گئی۔

(۲۲)۔۔۔ رمی جمرات میں سات کنگریاں اور سات طواف اور صفا مرودہ

کے درمیان سات مرتبہ سمجھ کرنا بتاتا ہے کہ خدا کو طاقِ عدد پسند ہے
کیونکہ یہ شرک سے دوری ہے۔

(۲۳)۔۔ منی میں قربانی دینا اپنے اندر خدا کی راہ میں جان دینے کا جذبہ
بیدار کرنے کے لئے ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

”تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے
کچھ خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے۔“ (القرآن)

اسی لئے جب حضور اکرمؐ منی میں قربانی کے مقام پر تشریف لائے تو آپؐ
نے ۶۳ جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے اور باقی جانور حضرت علیؓ کو ذبح
کرنے کے لئے دیئے۔ اور اپنی قربانی میں حضرت علیؓ کو شریک کیا اور ہر
جانور سے ایک ایک یوٹی لینے کا حکم دیا اور پھر ساری یوٹیاں ایک ہانڈی میں
پکالی گئیں۔ حضور اکرمؐ نے اور حضرت علیؓ نے اس میں سے کچھ یوٹیاں
نوش فرائیں اور کچھ شوربا پیا۔ یہ شکرِ نعمت بھی ہے کیونکہ اس وقت
حضور اکرمؐ کی عمر ۶۳ سال تھی تو شاید اسی لئے ۶۳ جانور زبح فرمائے۔

مختلف ارکان حج کا فلسفہ

خلاصہ "کتاب الحج" ڈاکٹر علی شریعتی شہید^ر

احرام اور میقات

میقات وہ مقام ہے، جہاں پر احرام باندھ کر عمرہ یا حج کی نیت کی جاتی ہے۔
یہاں سے حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بقول۔ ڈاکٹر علی شریعتی "۔

اس جگہ انسان اور انسانیت اپنے سارے پرانے کپڑے اتار دیتی ہے اور
سفید چادر، جسے 'احرام' کہتے ہیں، پہن لیتی ہے۔ اس لئے کہ لباس رحمانات
درجہ بندی اور امتیازات میں مدد دیتا ہے اور اس طرح انسان میں تفریق
قامم کر دیتا ہے اور اس تفریق کی وجہ سے اکثر امتیازی سلوک کیا جانے لگتا
ہے۔ اور اس طرح انسانیت اور اس کے ایک ہونے کا تصور دفن ہو جاتا
ہے۔ انسانیت کئی طبقوں میں بٹ جاتی ہے۔ آقا، غلام، ظالم، مظلوم،
حاکم، محکوم، امیر، غریب، لوٹنے والے اور لٹنے والے طاقتوں اور کمزور، بااثر
اور بے اثر، قابلِ عزت اور ناقابلِ عزت، اعلیٰ طبقہ اور عوام، کالے، گورے
اور عربی، عجمی یہ سب ختم ہو گئے۔

اس لئے خدا نے میقات پر یہ تمام جھوٹے سارے اتروادیے۔ سفید کفن
پہنا دیا جو ایک سالباس ہوگا اور تمہارے سب ساتھیوں کا بھی۔ اب
یکسانیت تمہارے ہر ہر عمل سے ظاہر ہوگی۔ سارے امتیازات کے بت اور

ڈھکو سلے ختم۔ اب تم ذرہ من کر ریگستان کا حصہ بن جاؤ۔ قطرہ قطرہ من کر سمندر من جاؤ۔ اب بھول جاؤ کہ تم کس نسل، کس رنگ، کس خاندان اور کتنے مالدار ہو۔ ہر نقاب اتار دو خواہ وہ بھیز یے کی نقاب ہو یا چوہے کی۔ اب تم اپنی اصلی آدمی کی شکل میں آ جاؤ۔ جیسا من کر تم کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ سفید کپڑے کے دو ٹکڑوں سے سارا جسم ڈھانپوں وہ بھی بغیر کثا سلا۔ گویا اب سارے ظاہری امتیازات ملیا میٹ ہو گئے۔ اب یہ سفر اللہ کی طرف شروع ہو گا۔ اس طرح کہ ہماری ساری خود غرضیاں، امتیازات اور انسانیت دفن ہو چکے۔ اب میں میقات سے اپنی لاش لے کر چلا۔ اب یہاں سے مجھے نئی زندگی ملی اب یہ منظر قیامت کا سامنظر ہے۔ افق تک سفید سیلا ب نظر آ رہا ہے۔ ہر شخص کفن پہنے اپنے رب کی طرف بڑھا جا رہا ہے۔ جسم میقات میں چھوٹ گیا اب صرف روح روح حرکت میں ہے۔ حقیقی وحدت عیاں ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا انسانی مرقع ہے۔ اب اگر خوف ہے تو صرف اللہ کا۔ امید ہے تو صرف اللہ سے۔ کشش ہے تو صرف اللہ کی طرف، سوال ہے تو صرف اللہ سے، سب کا رخ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے۔ ساری قومیں، قبیلے ختم۔ سب ایک گروہ بن گئے۔ سب کا رخ کعبے کی طرف ہے جو خدا کی نمائندگی کر رہا ہے۔

انفرادیت ختم ہو چکی۔ سب اجتماع من گئے۔ ہر شخص موم کی طرح پکھل کر ایک انسان بن گیا۔ سارے میقات میں دفن ہو چکے ہیں اور ہم سب

کے سب ہم بن گئے۔ ساری حیوانیت ختم ہو چکی۔ اب ہم سب انسان بن گئے۔ یہی حضرت ابراہیم کا مقصد تھا۔

”حقیقتاً إِبْرَاهِيمَ خَلُوصِ دُلْ سے خدا کے فرماں بردار تھے۔“ (القرآن)

گویا ب شرک کا معاشرہ توحید کا معاشرہ بن گیا۔ ایک ایسا معاشرہ جو ایک ہے اور متحرک ہے خدا کی طرف۔ اب سے پہلے ہم سب اپنی انسانیت کھو چکے تھے، اپنی اطمینانی کی وجہ سے مئے ہوئے تھے۔ اب ہم انسان کو انسان سمجھ رہے ہیں۔ یعنی وہی دے رہے ہیں جو خدا نے ہر شخص کو دی ہے۔ اب انسانوں کی دی ہوئی حیثیتیں ختم ہو چکیں۔

نیت

اب جب احرام باندھ لیا تو حج کی نیت کی۔ یعنی یہ نیت کی کہ ہم خدا سے قریب ہونے کے لئے اس کے گھر کا حج (ارادہ) کر رہے ہیں۔ گویا انسانوں کے گھروں کو چھوڑ کر خدا کے گھر کی طرف ذہنی اور جسمانی سفر کر رہے ہیں۔ اپنی ذات سے خدا کی ذات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نسلی امتیازات سے انسانی برابری اور اخوت کی طرف جاری ہے ہیں۔ روزمرہ زندگی سے دالگی اور حقیقی زندگی کی طرف جاری ہے ہیں۔ خود غرضی کی بے مقصد زندگی سے ذمہ دار زندگی کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ دنیاوی لباس اتار کر کفن پہن رہے ہیں۔ جس طرح کھجور کا درخت اپنے بیچ سے نکلتا

ہے۔ اسی طرح تم اپنی چھوٹی سی ہستی سے نکل کر، پھل پھول کر بلند قامت ہو جاؤ گے۔ اب ذہن میں شعور اور خدا کی لگن پیدا کرو۔ یہ روشنی تمہارے دل و دماغ اور روح تک کو روشن کر دے گی۔ اب اپنی ذات کو بھول جاؤ۔ اب تک تمہاری زندگی کی سمت مال و دولت، جھوٹے فخر اور امتیازات تھے۔ اب ان گندگیوں کو کاندھوں سے اتار پھینکو۔ اللہ اور اس کے بندوں سے صحیح تعلق قائم کرو۔ نئی جہت اور نئی زندگی کا رخ اختیار کرو۔ احرام باندھتے وقت دور کعت نماز پڑھو۔ گویا خود کو خدا کے سامنے پیش کر دو۔ گویا اس بات کا اعلان کرو کہ میں کسی نمرود اور فرعون کو نہیں مانتا۔ میں خدا کے سوا کسی کا غلام نہیں۔ بقول اقبال۔

ما سوا اللہ رامسلمان ہندہ نیت
پیش فرعون سرش افکرده نیت
یعنی مسلمان خدا کے سوا کسی کا غلام نہیں۔ کسی فرعون کے سامنے اس کا سر نہیں جھلتا۔ وہ ہر فرعون پر لعنت بھجتا ہے۔

پھر یہ سوچو کہ اے خدا میں تیرے سامنے ابراہیم جیسا بننے کی کوشش کرنے کے لئے کھڑا ہوں۔ تیرے ہندے کی حیثیت سے۔ حرث و ہوا کے غلام کی حیثیت سے نہیں۔ اسی لباس میں کہ جس میں روزِ قیامت تیرے سامنے کھڑا ہوں گا۔ پھر کو کہ اے سب سے بڑے رحم کرنے والے صرف تو ہی لائقِ عبادت ہے۔ اے میرے واحد مددگار ہمیں

ظالموں، عاصبوں کے راستے پر چلنے سے چا۔ ہم کو نیکی، شعورِ حق، حقیقت، حسن و کمال اور محبت کا راستہ دکھا۔ یعنی ابراہیم و اسما علیہ کا راستہ۔ صاحبانِ نعمت کا راستہ۔ محمد و آل محمد کا راستہ، ان کا راستہ نہ دکھا جو تیرے غنیض و غصب کے شکار بنے اور گمراہ ہوئے اب آج کا ہر رکوع اور سجدہ ان تمام سجدوں کی معافی کے لئے ہے جو تم قوت اور جبروت کے درباروں میں جالایا کرتے تھے۔ میقات کی یہ ۲ رکعت نماز اللہ سے تمہارا پختہ وعدہ ہے کہ آج سے خدا کے سوا کسی کے سامنے سراطِ اطاعت نہ جھکاؤں گا۔

اب سفید کپڑوں میں تمہاری نئی زندگی شروع ہو گئی جیسے مرنے کے بعد نئی زندگی ملے گی۔ اب ہر وقت تم میں یہ احساس بیدار رہے گا کہ تم خدا کے سامنے مصروفِ عمل ہو۔ کسی وقت بھی خدا سے پوشیدہ نہیں۔ آج سے تم آزاد بھی ہو اور اپنے ہر عمل کے ذمہ دار بھی۔

محرماتِ احرام

احرام پہننے کے بعد درج ذیل باتیں حرام ہو جاتی ہیں۔

(۱) آئینے میں اپنا چہرہ نہ دیکھو۔ یعنی عارضی طور پر خود کو بھول جاؤ۔ اپنی اناکوڈ فن کر دو۔

(۲) عطر نہ لگاؤ۔ یعنی اب محبت کی خوبصورتی کو بھول جاؤ۔ ظاہری امتیازات

(۳) لوگوں پر حکم نہ چلاو۔ بلکہ ان کی خدمت کرو۔ یعنی اخوت کا

منظارہ کرو اور انسان میں جاؤ۔

- (۴) کسی کیڑے مکوڑے کو بھی نہ مارو۔ یعنی کچھ دن ہی سی حضرت عیسیٰ جیسی بے ضرر زندگی گزارو اور زندگی کی قدر کرنا سیکھو۔
- (۵) پودوں کو نہ توڑو۔ یعنی فطرت کی طرف رحمدی کا جذبہ پیدا کرو۔
- (۶) شکار نہ کرو۔ یعنی ہر جاندار پر رحم کرنا سیکھو۔
- (۷) عورت کے پاس نہ جاؤ۔ یعنی ہو حکیمی اپنی کو دباو اور حقیقی محبت کو اجاگر کرو۔ جانور نہ بنو۔
- (۸) نہ شادی کرو نہ شادی کی تقریب میں شریک ہو۔ یعنی عیش و عشرت کی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرو۔
- (۹) بناؤ سلگھار نہ کرو۔ یعنی جیسے ہو دیسے ہی خود کو ظاہر کرو۔
- (۱۰) بے ایمانی، جھگڑے، گالم گلوچ اور ضریبہ انداز اختیار نہ کرو۔ یعنی ایک شریف آدمی بننے کی کوشش کرو۔
- (۱۱) اپنا احرام نہ سیو۔ یعنی تمام ظاہری امتیارات کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں بھول جاؤ۔
- (۱۲) اسلج لے کرنے چلو۔ یعنی کسی کو اپنے زور کے بل پر دبانے کی کوشش نہ کرو۔
- (۱۳) سایہ میں نہ چلو۔ یعنی عارضی سائے تلاش کرنے کےجائے

خدا کی رحمتوں کے سائے تلاش کرو۔

(۱۴) مردسر نہ ڈھکیں۔ یعنی انگساری پیدا کریں۔

(۱۵) عورت چہرہ نہ ڈھکے یعنی جیسی ہے ویسی خود کو دکھائے۔ تفعع اور بناوٹ چھوڑ دے۔

(۱۶) موزے جوتے نہ پہنو۔ یعنی فطری زندگی کی طرف پلٹو۔

(۱۷) زیور نہ پہنو۔ یعنی بناوٹ اور امتیازات چھوڑ دو۔

(۱۸) سر کے بال نہ بناو۔ یعنی اپنے ظاہر کے جائے اپنے باطن کو بناو، سنوارو۔

(۱۹) ناخن نہ تراشو۔ یعنی مرد بھی فطری زندگی کو اپنائیں۔

(۲۰) خون نہ بیماو۔ یعنی انسانی خون کی قدر و قیمت پہچانو۔

اب تم خدا کو پکارنے کے قابل ہو گئے۔ اس لئے اب کو

”لبیک اللہم لبیک۔ ان الحمد والنعمتہ

لک والملک، لا شریک لک، لبیک“

یعنی حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں، خوبیاں، کمالات اور نعمتیں تیری ہیں۔ ملک، حکومت اور اقتدار بھی تیرا ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔

گویا اب تم نے دنیا کی ہر طاغوتی طاقت کو رد کر دیا۔ ہر سپر طاقت کے دعویدار پر لعنت بھیج دی۔ اب ہر شخص اللہ کو پکار رہا ہے۔

تم کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہو۔ جیسے جیسے کعبہ قریب آتا جا رہا ہے تم خدا سے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ تمہارے دل میں دیدارِ کعبہ کی خواہش کروٹیں لے رہی ہیں۔ تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہے۔ خدا کی عظمت کا احساس تمہارے رگ و شہ میں سما رہا ہے۔ تمہاری نگاہ میں اب صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہی ہے جو موجود ہے باقی سب جھاگ ہیں۔ سائے ہیں۔ حقیقت صرف وہی ہے۔ باقی ساری چیزیں غیر حقیقی ہیں۔ خدا سب سے بڑی حقیقت ہے۔

اب تم حرم کے حدود میں داخل ہو گئے۔ گویا دارالامان میں داخل ہو گئے اب لیک کی آواز ختم ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے۔ یہاں میزبان اللہ ہے کیونکہ اب تم خدا کے گھر میں ہو۔ ہر شخص کا دل خدا کی عظمت اور محبت کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ عاجزی اور انکساری سے ہر سر جھکا ہوا ہے۔ یہی انکساری تمہاری بلندی اور معراج ہے۔

کعبہ تمہاری نگاہوں کے سامنے آگیا۔ یہ وہی کعبہ تو ہے جس کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھتے رہے ہو۔ یہ وہی ہے جس کی طرف مرتبے ہوئے مسلمان کا چہرہ موڑ دیا جاتا ہے۔ وہی جس کو خدا نے اپنا گھر کہا اور جس کی محبت میں خدا کے رسول کا دل دھڑکتا تھا۔

کعبہ

گھرے رنگ کے کھردے پتھروں کا سادگی کے ساتھ بنایا ہوا ایک چوکور

کمرہ جو سفید گارے سے پتھر دل کو ایک دوسرے پر تلے اور پر رکھ کر جمادیا گیا ہے، مس اسی کو کعبہ کہتے ہیں۔ اب تم تعجب سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہو۔ ارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک خالی کمرہ ہے۔ مگر یہی کمرہ ایمان کا مرکز اور محبت الہی کا محور ہے۔ حالانکہ یہ نہ تو کوئی عظیم الشان محل ہے نہ کوئی بہت بڑا مزار ہے جس میں کوئی عظیم روحانی رہنمای آرام کر رہا ہو۔ یہ نہ کوئی آرٹ کا مرقع ہے نہ سونے چاندی سے بھی بنی آرٹ گیلری ہے۔ اس لئے اب یہاں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی طرف ذہن منتقل ہو سکے۔ مس اللہ ہی اللہ ہے۔

اب آپ سمجھئے کہ کعبہ کا خالی ہونا بھی کتنے معنی رکھتا ہے۔ خدا نے اسی گھر کے لئے فرمایا:

”حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو تمام انسانیت کے لئے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ وہ گھر برکت والا ہے اور تمام عالمین کے لئے ہدایت ہے“ (قرآن)۔

اس گھر کو مبین عقیق بھی کہتے ہیں۔ عقیق کے معنی آزاد ہونا ہے۔ کیونکہ یہ گھر ہر سلطنت اور ہر حکومت سے آزاد ہے۔ خدا کے سوا کوئی اس کا مالک نہیں۔ اس کا حاکم خدا ہے اور تمام انسان اس کے شری ہیں۔ اسی لئے یہاں آکر ہر مسلمان پوری نماز پڑھتا ہے قصر نہیں کرتا، اس لئے کہ مکہ ہر انسان کا وطن ہے۔

یہ جبیتِ حقیق آزادی کا گھر اس لئے بھی ہے کہ یہاں آکر تم گناہوں سے توبہ کرو گے تو جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ یہاں تم خدا کے مہمان ہو۔ انسانیت خدا کا سب سے چھپتا خاندان ہے۔ اس لئے یہاں اپنی انا، اپنی ذات، اپنی انفرادیت کا لباس اتار دو۔ اب تم خدائی رنگ میں ہو۔

یہ کعبہ اس انسان نے تعمیر کیا جو ہر خدائی کے دعویدار جھوٹے خدا کا باغی تھا۔ جو یہاں کی ہر چیز سے منہ موز کر صرف اللہ کا ہو کر رہ گیا تھا۔

سوال یہ ہے کہ اس عمارت میں کوئی ڈینا سن کیوں نہیں؟۔

اتناساہ اور بے رنگ کیوں ہے؟ اس لئے کہ اللہ جسم و شکل نہیں رکھتا۔ نہ اس کا کوئی رنگ ہے اور نہ کوئی اس جیسا ہے۔ اور مکعب اس لئے ہے کہ اس کی کوئی خاص سمت نہیں۔ کیونکہ خدا ہر طرف ہے۔ خدا نے فرمایا:

”مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں۔ اس لئے تم جس طرف رخ کر لو گے خدا کا رخ ادھر ہی ہو گا۔“ (قرآن)

مکعب ہونے کی وجہ کعبہ ہر سمت ہونے کے باوجود کسی بھی سمت کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔

کعبہ کے مغربی حصے میں ایک نیم دائرے کی شکل کی چھوٹی سی دیوار ہے جسے حجر اسماعیلؑ کہتے ہیں۔ حجر کے معنی دامن کے ہیں۔ کیونکہ یہ دیوار دامن سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیلؑ کی والدہ بے وقت کنیز باجڑہ کا گھر تھا۔ اور یہیں اس کی

قبر بھی ہے۔ کعبہ کی دیوار ان کی قبر کی طرف نکلتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر، جو اسماعیلؑ کی طرف منہ سیکے ہوئے ہے۔ ہاجرة کے گھر کا طواف بھی ضروری ہے۔ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے۔ یہ ہے خدا کی قدردانی۔

اس کمیرؓ نے خدا کے گھر کی اور خداوائے ابراہیم و اسماعیلؑ کی خدمت کی تو خدا نے اسے کیسی عزت عطا فرمائی کہ اب قیامت تک ہر نبیؐ ہر ولیؐ اور ہر آنے والا خدا کے گھر کے ساتھ ساتھ اس گھر کا بھی طواف کرے گا۔ خدا نے اپنی ساری مخلوق میں ایک کمیرؓ جس جو بظاہر پست تھی اس کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ معلوم ہوا کہ خدا حسب نسب کو نہیں دیکھتا۔ نیت کی سچائی، خدمت اور عمل کو دیکھتا ہے۔ بہت سے حج کے ارکان ہاجرة کی یاد ہیں۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا:

”جو ہاجرة کے نقشِ قدم پر چلاو، ہی حقیقی مہاجر ہے“ الحدیث

یعنی ہجرت وہ عمل ہے جو ہاجرة سے شروع ہوا۔ وحشی گروہ سے تمذیب کی طرف۔ کفر سے اسلام کی طرف۔ خدا سے خدا کی طرف۔ انسان دشمنی سے انسانی خدمت کی طرف۔

ایک سیاہ فام کمیر جو مادی اعتبار سے بظاہر نہایت حقیر ہے اگر خدا کی ہو جائے تو وہی سب سے زیادہ عزت دار بن جاتی ہے۔

طواف

کعبہ کے چاروں طرف انسانوں کا دریا گھوم رہا ہے۔ جیسے آفتاب مرکز میں ہو اور ستارے چاروں طرف گھوم رہے ہوں۔ مرکز یعنی کعبہ اللہ کی ابدیت اور مرکزیت کا مظہر ہے اور دائرے میں حرکت اللہ کی مخلوق کا ارتقائی سفر ہے۔

ابدیت + حرکت + نظم و ضبط + طواف

ہر جزو اپنے کل کے گرد طواف کرتا ہے۔ ہم طواف کرتے ہوئے پوری کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لیتے ہے کہ زندگی کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہے۔

پھر یہ ایک گروپ کی گودش ہے۔ یہاں فرد کا امتیاز نہیں۔ کالے گورے، امیر غریب، مرد عورت کا بھی امتیاز نہیں۔ کیوں کہ سب ایک کل کے جزو ہیں۔ ہر فرد ایک گروہ میں تبدیل ہو گیا۔ سارے ”میں“ مل کر ہم ہو گئے۔ ملت وجود میں آگئی۔ جو اللہ سے قریب ہونے کی متنبی ہے۔ کعبہ سے دور لوگ اپنے نام، قوم، نسل، قبیلے، وطن، زبان، رنگ، مال و دولت سے پچانے جاتے ہیں مگر کعبہ کے پاس آ کر یہ امتیازات ختم ہو جاتے ہیں۔ وحدت ہماری پچان بن جاتی ہے۔ اب یہ لوگ ساری انسانیت کے نمائندے ہو کر انفرادیت سے اجتماعیت میں تبدیل ہو چکے ہیں۔

اب یہاں تم اپنا غرور اور اپنے امتیازات اور اپنی انا کو فنا کر دو۔ دل کو وسیع

کرو۔ دوسروں پر رحم کرو۔ امت کے خادم بنو۔ کیوں کہ اللہ کا راستہ انسانیت کا راستہ ہے۔ اس لئے اس راستے کو انفرادی طور پر نہیں اجتماعی طریقے سے طے کیا جاتا۔

انسان اگر خدا اور خدا والوں سے الگ تھلگ ہے تو شبنم کے قطرے کی طرح ہے جو صبح کوفتا ہو جائے گا۔ اگر انسان اس دریا کا حصہ نہ گیا تو اللہ کے سمندر سے والستہ ہو گیا اب کبھی فنا نہ ہو گا۔ تو بھی دریا کا حصہ نہ جا۔ ملت میں گم ہو جا۔ یہی دریا کا نات کا دھارا ہے جو ہم آہنگی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ تو بھی آگے بڑھ اور امت کا حصہ نہ جا۔ وہ بھی اللہ کی خوشی کے لئے۔ نہ اپنے لئے نہ مادی فوائد کے لئے۔

پیوستہ رہ شجر سے امید بھار کر

جگ اسود

طواف جگ اسود کو چومنے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حضرت آدم جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ سب سے پہلے اپنے داہنے ہاتھ سے جگ اسود یعنی کالے پتھر کو چھوؤ یا اس کی طرف اشارہ کرو اور پھر لوگوں کے سمندر میں گم ہو جاؤ۔ یہ پتھر خدا کے داہنے ہاتھ کا مظہر ہے۔ گویا تم نے خدا کا داہنہ ہاتھ تھام لیا۔ آج بھی لوگ معاهدہ کر کے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ مصافحہ معاهدہ کا استحکام ہوتا ہے۔ آج تم اللہ سے مصافحہ کر کے اپنی بعدگی کے عمد کو مضبوط کر رہے ہو۔ اب تم اللہ کے طرفدار ہوں گے۔ اب اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں پر آگیا۔

”اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔“ (قرآن)

طواف کے دوران جیسے جیسے تم کعبہ کے قریب ہو گے تو تمہیں محسوس ہو گا کہ تم ایک چشمہ ہو اور دریا سے مل رہے ہو۔

تم اللہ سے ملنے آئے تھے مگر خدا تمہیں لوگوں میں مدغم ہونے کو کہہ رہا ہے۔ یہی اس کا طریقہ کار ہے۔ جب بھی وہ تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے، وہ تمہارا خ تمہارے بھائیوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ کیوں کہ جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے وہ انسانوں ہی کے درمیان سے جاتا ہے۔ انسانوں کی خدمت ہی خدا کا راستہ ہے۔ اگر تم اجتماع سے الگ ہو کر کسی اور طرف چل نکلو اور سب کے ساتھ اسی سمت میں نہ لگو جس طرف سب گھوم رہے ہیں تو تمہارا طواف نہ ہو گا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا پرستی میں لوگوں کا ساتھ دو۔ دل میں خدا کا خیال ہو مگر قدم انسانوں سے ملا کر چلو۔ طواف کرتے ہوئے دھکے کھاؤ تو اپنے وجود کو حقیر سمجھو۔ مگر دوسروں کا لحاظ رکھو۔ یہ ہے انسان دوستی کا عملی سبق۔

مقامِ ابراہیم

کعبہ کے سات چکر لگانے کے بعد مقامِ ابراہیم پر دور کعت نماز پڑھو۔ مقامِ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر انسوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا اور جر اسود کو نصب فرمایا تھا۔ جہاں پہلے ابراہیم کھڑے تھے آج تم کھڑے ہو۔ اب یہاں سر زمین پر رکھ دیجئیں اپنی انا اور سرکشی کو اپنے

پیروں سے کھل دو۔ اور ابراہیم کا احسان مانو۔ جس نے توحید کی رسم قائم کی وہ مردِ مجاهد جس کے دل میں انسانیت سے بے پناہ محبت تھی مگر اس کے ہاتھ میں کلماظی تھی خدا مخالف طاقتوں کو کچلنے کے لئے۔ ابراہیم وہ پہلا مردِ مجاهد جس نے بت پرستی، شرک اور طاغوت وقت سے بھر پور جنگ کی۔ اس کی جنگ ظلم، جہالت اور استھصال کے خلاف تھی۔ تم بھی ابراہیم کی طرح ظلم اور جہالت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ ہر شخص جو ابراہیم کی طرح جہاد کرے گا خدا اس کی آتشِ نمرود کو سرد کر دے گا۔ نہ تم جلوگے نہ راکھ بنو گے۔ دوسروں کو آگ سے چانے کے لئے آگ میں کو دپڑتا ابراہیم کا کارنامہ ہے۔ یہی راہ شادت کی طرف جاتی ہے۔ اسی کو رسم فتنہ ری کہتے ہیں۔

نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شیری
کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری

تیر و ستان و نجھر و ششیرم آرزو است
بامن میا کہ مسلک شیرم آرزو است
(علامہ اقبال)

مقامِ ابراہیم جو خدا سے قرب کا مقام ہے، کھڑے ہو کر:
(۱) ابراہیم و اسماعیل کے احسان کو مانو۔

- (۲) اس کے پیغامِ توحید کو مانو۔
- (۳) ان کی زندگیوں کو اپنانے کا عمل کرو۔
- (۴) اپنے اندر خدا کی معرفت اور محبت کا کعبہ تعمیر کرو۔
- (۵) خدا کے لئے قربانی کا جذبہ بیدار کرو۔
- (۶) انسانوں کی خدمت کو سب سے بڑی عبادت سمجھو۔
- (۷) عدل کے لئے ظلم سمنے کی جراءات پیدا کرو۔
(یہاں سے واپس جا کر اپنی زمین کو امن کی جگہ بناؤ۔)

سمی

مقامِ ابراہیم پر دور کعت نماز پڑھ کر صفا پر جاؤ اور مرودہ کی طرف دوڑو۔ سات چکر لگاؤ۔ یہ سمی ہے۔ سمی ایک تلاش ہے۔ ایک مقصد کی طرف ارادی اور اختیاری حرکت ہے۔ حرکت کے لئے عجلت اور جوش درکار ہے۔ طواف کے دوران تم ابراہیم اور اسماعیل کے قریب تھے۔ سمی میں تم ہاجرہ کی سنت اور نقشِ قدم پر چل رہے ہو۔ یہاں انسانیت اور روحانیت دونوں حرکت میں ہیں۔ ہاجرہ کی طرح ہر شخص یہاں ایمان اور سمی کا پیکر ہے۔ انسانی کوشش کتنی ضروری ہے کہ ہاجرہ بیان میں اپنے بچے کے لئے پانی تلاش کرتی دوڑ رہی ہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں پیٹھیں۔ صرف دعا نہیں کرتیں۔ اللہ پر توکل کے بعد اپنی بساط بھر کو شش بھی کر رہی ہیں۔

پریشان ہیں مگر پر امید ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ پانی کی تلاش ہے۔ یہ انسان کا فطرت سے تعلق ہے۔ اسی دنیا میں جنت کی تلاش ہے۔ یہ سعی ایک جسمانی مشقت ہے۔ یعنی اپنے اور اپنے گھروالوں کے لئے کھانے پینے کی ضرورتوں کے لئے بھاگ دوڑ ہاجرہ کی سنت ہے۔ خدا کو یہ دوڑ دھوپ بے حد پسند ہے۔ اگر یہ کوشش خدا کی اطاعت کے دائرے میں رہ کر کرو گے تو جس طرح ہاجرہ کو گوہر مراد زم زم کی شکل میں ملا، تمہیں بھی گوہر مراد جنت کی شکل میں ملے گا۔ تمہاری خشک زندگی کے ریگستان میں بھی خدا کی رحمت کا چشمہ یہہ نکلے گا۔ خدا کی رحمت سے خود بھی سیراب ہو اور دوسروں کو بھی سیراب کرو۔

عرفات

۸ ذی الحجہ کو حرام پہنے ہوئے کے سے مشرق کی طرف میدانِ عرفات کے لئے حاجی روانہ ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ حضرت آدم کی یادگار ہے کہ وہ جنت سے زمین پر اترے۔ اب وہیں قیام کرو۔ یہ پندرہ میل لمبا ایک درہ ہے جو منعہ کی وادی سے جا ملتا ہے۔ اس پندرہ میل میں عرفات، مشرق الحرام اور منی کے مقامات ہیں۔ یہاں سب کے سب حاجی قافلوں کی شکل میں چلتے، اترتے، ٹھرتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ گویا یہ منزلیں ہیں۔ اللہ کی طرف بڑھنے کے درمیان آنے والی ہر جگہ رُزکتے ہیں اور بڑھ

جاتے ہیں۔ گویا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہاں تمہاری کوئی منزل نہیں۔ یہ سب نشاناتِ منزل ہیں۔ ہر چیز عادی ہے۔ ہر حال بدل رہا ہے۔ ہر چیز فنا ہو رہی ہے۔ صرف ایک چیز مستقل ہے وہ حرکت اور ارتقاء ہے۔ خدا نے

فرمایا:

”ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے خدا کی ذات کے۔“

”ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے“ (القرآن)
جس ایک مسلسل حرکت ہے یہ ایک ایسی حرکت ہے جو اپنے مقصود کے قرب کی تلاش میں جاری رہتی ہے۔ یہ اللہ کے قرب کی جستجو ہے۔

اللہ کی طرف پہنچنے میں تین اسٹپز ہیں (۱) عرفات (۲) مشر (۳) منی۔ عرفات کے معنی علم و سائنس کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کرنا۔ یہی انسان کے ارتقاء کی پہلی منزل ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا:

”اول الدین معرفۃ“، دین کی پہلی منزل خدا کی معرفت ہے۔

پھر ”مشر“ کے معنی خدا کی عظمت، رحمت، نعمت، حکمت اور کمال و جمال کا شعور و ادراک حاصل کرنا ہے۔ جو علم اور سائنس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اور منی کے معنی تہمنا، محبت اور یقین کے ہیں۔ جو شعور اور ادراک کے نتیجہ میں حاصل ہونے والی آخری منزل ہے۔ حضرت امام رضاؑ نے فرمایا:

”انسان کو یقین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی۔“

ڈاکٹر اقبال نے کہا:

جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الامیں پیدا یقین کا منطقی نتیجہ قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم ان تمام منزلوں کے نمائندے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے قرآن کے بیان کے مطابق ملکوتِ سماوات وارض کا مطالعہ فرمایا اور خدا کی معرفت حاصل کی۔ اسی معرفت کے نتیجہ میں ان کو خدا کی عظمت و رحمت اور جمال و کمال کا وہ شعور و اور اس کا حاصل ہوا پھر خدا پر یقین اور خدا سے محبت کے درجہ پر فائز ہوئے۔ یہی ان کی جستجو تھی۔ انہوں نے خدا سے ہی مانگا تھا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ یہ 'اطمینان قلب' یقین کا دوسرا نام ہے۔ اسی یقین کے نتیجہ میں وہ محبتِ اللہ کی اس منزل پر پہنچے کہ سابقین میں سب سے بڑا امتحان منی میں دیا۔ اس طرح کے خدا کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پر اپنے ہاتھ سے چھری پھیری۔ اور اس طرح محبت کے امتحان میں پوری پوری کامیابی حاصل کی۔

تاریخی اعتبار سے عرفات وہ مقام ہے جہاں آدم نے خدا کو پہچانا اور دنیا کی نئی زندگی کی ابتداء کی۔ جنت کی زندگی آرام، خوشیوں اور آسانیوں کی زندگی تھی۔ مگر دنیا کی زندگی لائق اور مشقتوں کی زندگی ہے۔ دنیا میں باشدور اور ذمہ دار زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس زندگی سے پریشان ہو کر آدم نے میدان عرفات میں سب سے پہلے خدا کی عظمت کو پہچانا اور خدا

سے اپنی کوتاہی کی معافی مانگی۔ پھر مشر المرام میں آکر علم شعور کی زبان میں خدا سے فریاد کی۔ پھر منی میں آکر خدا کی رضامندی حاصل کرنے کی تمنا اور محبت کی زندگی کا آغاز کیا۔ اس طرح انہوں نے دنیا کی زندگی کو بعدی کامیابی کا بہترین ذریعہ بنادیا۔

غرض عرفات خدا شناسی اور خدا شناسی کی منزل، خدائی عظمت اور اپنی کوتاہیوں کی پستیوں کو پہچاننے کا نام ہے۔ سائنسی نقطہ نگاہ سے بھی انسان کی تاریخ علم کے وجود سے شروع ہوئی۔ علم ہی انسان کی عظمت کا راز ہے۔ علم سے حقیقی معنی میں مراد حقیقت کا علم ہے۔ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت خدا کی ذات و صفات ہیں اور اس کے بعد انسان کا وجود ہے۔ شاید اسی لئے عرفات میں قیامِ دن کو آفتاب کی روشنی میں ہوتا ہے۔ کیونکہ روشنی علم و عرفان کی علامت ہے۔ روشنی ہی میں علم حاصل ہوتا ہے۔ خود علم اصل روشنی ہے جو دل و دماغ کو منور کر دیتی ہے۔

علم کے بعد شعور کی منزل ہے۔ اسی شعور پر انسان کا ارتقاء منحصر ہے۔ اسلام عقل و شعور کا مذہب ہے۔ اسی لئے حج کو عرفان سے شروع کیا گیا۔ پھر مشریعی شعور پر لا یا گیا۔ اس کے بعد منی یعنی محبت اور عقیدت کی منزل آئی۔ وہ ایک اندھامذہب ہوتا اگر حج کو منی یعنی محبت، عقیدت اور جذباتیت سے شروع کیا جاتا۔ اور اگر حج عرفات ہی پر ختم ہو جاتا تو ہو محض ہماری بے روح بے مقصد زندگی ہوتی جس میں نہ شعور ہوتا نہ محبت۔ ہمیں علم و آگئی کے ذریعے منی یعنی محبت الہی کی منزل تک پہنچنا ہے۔ اللہ کی رضا مندی اور قرب کی تمنا کرنی ہے۔ پہلے خدا کو

پچانو پھر اس کا شعور بیدار کرو پھر خدا سے محبت کرو۔ ہم زندگی میں سب سے پہلے حقائق کو علم سے پچانتے ہیں۔ اور اس طرح شعور و ادراکِ حقائق کی منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ پھر اسی شعور و ادراک کی وجہ سے اللہ اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا سمجھتے ہیں۔

اقبال نے علم کی زبان سے یہ مکالمہ نظم فرمایا:

علم کی انتتا ہے پیتاںی

اور پھر محبت نے کہا
اس مرض کی مگر دوا ہوں میں
جج میں ہم عرفات میں علم و حکمت کے حصول کے لئے بڑھتے ہیں۔ ہمارا
عرفات میں بڑھنا علم و حکمت کے حصول کے لئے تحرنے کی نمائندگی
کرتا ہے۔ اور پھر مشعر الحرام میں خدا کی عظمت و رحمت کا شعور حاصل
کرتے ہیں۔ اور آخر میں منی آکر محبتِ الہی، قربانی اور رواداری کی روح بیدار
کرتے ہیں۔

تمام انسان خود اپنے ارادے، اختیار اور فیصلے سے یہ سفر اختیار کرتے ہیں۔
عرفات میں ہر نسل کے لوگ ایک نسل کی مانند ایک دوسرے کے ساتھ
پڑے ہوتے ہیں۔ یہاں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا، دولت، امارات وغیرہ
کے یہاں کوئی معنی نہیں۔ گویا عرفات میدانِ قیامت کا نقشہ پیش کر رہا
ہے۔ اس لئے یہاں انسان کی بنا کی ہوئی خوبصورتیاں، بد صورتیاں نظر آتی

ہیں۔

میدانِ عرفات کے درمیان ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے جبلِ رحمت کہتے ہیں۔ جس پر آدم و حواء نے توبہ کی تھی اور اسی جبلِ رحمت پر جنابِ رسالت مَبُّ نے اپنا آخری خطبہ حج کے دوران دیا تھا۔ اس پہاڑ پر ایک سفید ستون ہے جو جبلِ رحمت کی نشانی ہے۔ جو شاید خدائے واحد کی رحمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

مشعر

اب سورج غروب ہوا اب سارے کے سارے عرفات سے مشعر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اندھیرا ہونے کے بعد ایک آدمی بھی یہاں دکھائی نہ دے گا۔ گویا مجھ کو بتایا گیا کہ انہیں آدم دنیا میں تیرا قیام بہت مختصر ہے۔ علم و آگی حاصل کر اور آگے بڑھ۔ موج رک گئی تو فنا ہو گئی۔ تو موج من من کر اُنہر تارہ اور آگے بڑھتا رہ۔ خدا نے فرمایا:

”اور پھر جب تم عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے قریب اللہ کو خوب یاد کرو۔ اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے اور تمہاری ہدایت کی ہے۔ (کیوں کہ) تم اس سے پہلے گرا ہوں میں تھے۔“ (القرآن) مغرب کے وقت عرفات سے مشعر کی طرف تیزی سے روانہ ہونے والے حاجیوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل کا دن قریب آ رہا ہے۔

مجاہدوں کے ہاتھ میں کنگریاں ہیں اور زبان پر دعائیں ہیں۔ صحیح کی اذان کی آواز آئی تو سارے توحید کے پرستار ایک ساتھ اپنے جدواحد آدم کی طرح خداۓ واحد کے سامنے جھک گئے۔

ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بعده رہا نہ اور نہ کوئی بعده نواز

بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے

منی

حج کا سب سے قیمتی لمحہ آپ سنچا۔ عیدِ قرباں آپ سنچی۔ توحید کی معراج آپ سنچی۔ خدا سے محبت لئے ہوئے اور خدادشمنوں سے نفرت لئے ہوئے۔

بقول قرآن:

”کافروں پر غضبناک اور آپس میں رحمدل“۔

آج ابلیسِ موحدین کا نشانہ ہے۔ ابلیس آج میدان ہار گیا۔ کیوں کہ ابراہیم نے ابلیس کی ایک نہ سئی۔ خدا کی محبت میں اپنے بیٹے کو قرباں کر دیا۔ اس لئے آج عید ہے۔ کیوں کہ ابراہیم نے علم و شعور کے ذریعہ ابلیس کو ٹکست دے دی تم بھی شیطان کو ٹکست دو اور ابراہیم کی طرح خداۓ ایم محبت میں اپنی

قربانی پیش کرو۔ بقول اقبال:

یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے
پیش کر غافل۔ اگر کوئی عمل دفتر میں ہے

رمی جمرات

تین شیطان یکے بعد دیگرے ایک دوسرے سے ۱۰۰ میٹر پر کھڑے ہیں۔
لواللہ کی فوج پہنچ گئی۔ سب اسلحے سے لیس ہیں۔ شیطان کے دھوکے اور
ڈھکو سلے ٹھکراؤ۔ خدا کے مقابلے پر اس کی ایک نہ سنو۔ اس کو مار کر دفع
کرو۔ اور خدا کی راہ میں قربانی دو اور پھر اپنی فتح کا جشن مناؤ۔ کیوں کہ تم نے
اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان کو رد کر دیا۔ احرام اتار دو۔ اب جو چاہے
کپڑے پہنو۔ شکرانے میں سر کے بال ترشاو۔ عطر لگاؤ۔ تم نے جنگ
جیت لی۔ شیطان کو ہرا دیا۔ اب تم ابراہیم جیسے ہو گئے۔ اب تم اللہ کی خاطر
اپنے اسماعیل کو قربان کر سکتے ہو۔

قربانی

تمیرے شیطان کو مارنے کے بعد فوراً قربانی دو۔ یہ ابراہیم کی منزل ہے۔
تمہارا اسماعیل کون ہے۔ جسے تم کو قربان کرنا ہے۔ وہ تمہاری دنیا اور اپنی
اولاد سے محبت ہے۔ عزت اور مرتبہ سے محبت ہے۔ اپنی خود غرضیاں

قربان کرو۔ جو چیز تمہیں حق سے روکتی ہے اس کو ذمہ کر دا لو۔
ابراہیم کو اپنے چھیتے ہیئے کو ذمہ کرنے کا حکم ملا تو کانپ اٹھے۔ کیوں کہ آج وہ
جمادا اکبر کی منزل پر تھے۔ آج ان کا مقابلہ نمرود، شداد ایاہت پرستوں سے نہ
تھا۔ بلکہ آج مقابلہ خود اپنے نفس سے تھا۔ وہ داخلی جنگ لڑ رہے تھے۔ اپنی
ولاد کی محبت سے جنگ لڑ رہے تھے جوان کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ ان
کے لئے اب سوال تھا کہ اسماعیل کو اختیار کریں یا خدا کو؟۔ اللہ کی مرضی کو
ترنجح دیں یا اپنی محبت کو؟۔ مصلحتوں پر چلیں یا حائق کو مانیں؟۔ زندگی کی
لذتوں سے ہم کنار ہوں یا اطاعت کی مشقت اور ذمہ داری کو برداشت
کریں؟۔ چین، آرام، سکون اور لذت حاصل کریں یا یقین اور جدوجہد کا
راستہ اختیار کریں؟۔ اپنے ذاتی مفادات کے تقاضے پورے کریں یا شعور
اور اور اک کے تقاضوں کو ترجیح دیں؟۔ اپنے مفادات کی نوکری کریں یا
ایمان کی خدمت کریں؟۔ باب بن کر رہیں یا توحید کے علمبردار بن کر
رہیں؟۔

ابراہیم نے اب تک جاہلوں، مشرکوں، ظالموں اور کافروں سے جنگ کی
تھی۔ ان پر فتح حاصل کی تھی۔ شک اور شبہ نے کہیں ان کو رکنے نہ دیا تھا۔
مگر ابراہیم کو ابھی بیکھیل کے لئے کچھ اور بھی کرنا ضروری ہے۔ پیغامبری
میں تم کامل ہوئے مگر اطاعت میں تم ابھی کامل نہیں ہوئے۔ اب تم ماسوئی
اللہ کی محبت کے تمام بندھن توڑ دو۔ اپنی سب سے چھیتی چیز کو خدا کے حکم پر

قربان کر دو۔ یہ قربانی دے کر اب تم اللہ کے دوست میں گئے۔ تمام انسانوں کے امام یعنی نموذجِ عمل میں گئے۔ موسیٰ، عیسیٰ اور محمدؐ کے آنے کے لئے شاہراہ تعمیر کرنے والے میں گئے۔ انسان کے علم و شعور و کمال اور خدا کی محبت کے Symbol میں گئے۔ اب تم خدا کے مکمل فرماں بردار میں گئے۔

تم بھی جانور کو قربان کرتے ہوئے خدا سے یہ عمد کرو کہ آج اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، کل تیرزا حکم آیا تو اپنی اولاد، اپنی جان پر بھی اسی طرح چھری پھیر دوں گا جیسے دنبہ کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں۔

اس طرح تم اپنے نفس اور اپنے مفادات کی قید سے آزاد ہو گئے۔ مردِ حرث ہو گئے۔ اب تم عید کی تکبیریں کو۔ بقول اقبال:

شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن
قبول حق ہیں فقط مردِ حرث کی تکبیریں
اب را ہی تم کے سامنے بھی صرف دو ہی راستے تھے۔ یا اپنے دل کی پکار نہیں یا
اسا عیمل کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم حق و
النصاف کی باتیں تو خوب کرتے ہیں مگر جب ہمارے مفادات حق و انصاف
کے تقاضوں سے ملنگراتے ہیں تو حق و انصاف کا دلدارہ مشکلوں میں پھنس
جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں ایک بڑی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے۔ وہی
ہمارے امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم تو یہ آتا ہے کہ ذاتی مفادات کو
رخصت کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ یہی قربانی کے معنی ہیں۔ مگر

مفادات تمہیں روکے رکھتے ہیں۔ آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اس کی وجہ تمہارے ایمان و یقین کی کمزوری ہے۔ اب تمہیں اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہو گا۔ وہ خواہشات جو خدا کی خواہش سے مکمل ہی ہوں۔ ان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔

ابراہیم بھی آج سخت امتحان دے رہے ہیں۔ ایک طرف اولاد کی محبت اور دوسری طرف خدا کا حکم۔ شیطان ور غلار ہا ہے۔ مگر ابراہیم شیطان کی مکاریوں میں نہیں آتے۔ شیطان پھر بھی کوششوں پر کوششیں کر رہا ہے۔ یہی زندگی کا نقشہ ہے۔

شیطان ابراہیم کی اس محبت کے جوش مارتے ہوئے سمندر کو دیکھ رہا ہے۔ جو ابراہیم کے دل میں اولاد کے لئے موجز ہے۔ اس لئے وہ بار بار بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شبہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اولاد کی محبت کو ہوادے رہا ہے۔ کیوں کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسی دشمنی میں وہ خدا کے حکم کے مقابلے پر ہمیں ہمارے مفادات اور ساری محبتوں کو ہوادیتا ہے۔ بھلاوے دیتا ہے۔ تاویلیں سمجھاتا ہے۔ تسلیاں دیتا ہے۔ اور اس طرح ہمیں ہمارے فرائض ادا کرنے سے روکتا ہے۔ تاکہ ہم سچائی کو حاصل نہ کر سکیں۔ اسی لئے خدا نے فرمایا:

”تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہی تمہارے امتحان ہیں۔“ (القرآن)

”تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے کچھ اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔“ (القرآن)

ابراہیم کی کمائی انسان کے کمال تک پہنچنے کی کمائی ہے۔ وہ کمال جہاں پہنچ کر انسان اپنی ساری خود غرضیاں اور حیوانی خواہشات پر قابو پا کر ان کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ابراءہیم کی کمائی ایسے عزم و ارادے کی کمائی ہے جو انسان کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں رکاوٹ کو دور کرنا سکھاتی ہے۔ ابراءہیم کی طرح تم بھی اپنے اسماعیلؑ یعنی مساوا سے محبووں کو خدا کی محبت پر قربان کر دو۔ تمہارا اسماعیلؑ وہ ہے جو تمہیں اتنا محبوب ہو جتنا ابراءہیم کو اسماعیلؑ محبوب تھے

تم غور و فکر کر کے اپنے اسماعیل کو تلاش کرو۔ وہی محبت تمہارا اسماعیل ہے جو تمہیں خدا کی محبت کے تقاضے پورے کرنے سے روکتی ہے۔ اگر تم کو اللہ کی تلاش ہے تو اپنے اسماعیل کو منی میں ذبح کر ڈالو۔

خدا نے دنبہ بھیج کر یہ سبق دیا کہ اب انسان قربان نہیں کیا جائے گا۔ ابراءہیم کی طرح دنبہ کو قربان کیا جاتا ہے انسان کو نہیں۔ ابراءہیم کا خدا خون کا دلدادہ نہیں۔ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ دوسرے سب خدا آدم خور ہیں۔ خدا اس یہ چاہتا ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اس ذات سے محبت کریں جو ہر نعمت عطا کرنے والی ہے۔ اس لئے کہ یہی ہماری تکمیل ہے اس سے ہم خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی ہماری حقیقی کامیابی ہے۔

اسی مصنف کے قلم سے

۱..... قرآن تہییں: قرآن مجید کا آسان ترین واضح اردو ترجمہ

۲..... خلاصہ التفاسیر: مختلف مکاتب فکر کی تفاسیر کا خلاصہ با تفسیر اہلیت (۳۰ جلد)

۳..... اصول کافی کا منتخب آسان ترجمہ (اردو، انگریزی)

۴..... روح قرآن: قرآن مجید کے موضوعات کا خلاصہ (اردو، انگریزی)

۵..... روح اور موت کی حقیقت

۶..... کلام شاہ بخشانی: اردو ترجمہ کا انتخاب و ترتیب

۷..... قرآن مجید کا انفظی انگریزی ترجمہ

۸..... شیعہ عقائد و اعمال کا تعارف سُنی کتابوں سے (انجادیں اسلامیں کی ایک عملی کوشش)

۹..... قرآن مجید کے (۳۰) اہم ترین سوروں کی تفسیر

۱۰..... قرآن مجید کے سو (۱۰۰) موضوعات کی تفسیر موضوعی

۱۱..... اثبات و معرفتِ خدا (جدید علوم کی روشنی میں)

۱۲..... ائمہ اہلیت کی معرفت اہل سنت کی کتابوں سے

۱۳..... حضرت امام مہدیؑ کی معرفت اور ہماری ذمہ داریاں

۱۴..... انتخاب صواعق محرقة (ولایتِ علیؑ اہل طالب)

۱۵..... اصول دین (تفسیر موضوعی)

۱۶..... صحیفہ کاملہ سجادیہ (زبور آل نحمد)

اکیڈمی آف قرائیک سٹڈیز اینڈ اسلامک ریسرچ

6364519، بلاک 13، فیڈرل بی ایریا، کراچی، فون: